


مومنو! پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر دُرُود
ہے خُدا کا یہ وظیفہ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

فضیلت و عظمت دُرُودِ شَرِيفِ



تالیف:

میاں عبدالعالی عابد

سماعہ شمیمہ حضرت داتا گنج بخشؒ - لاہور

حبیب ہوٹل 10-D دربار مارکیٹ چوک داتا دربار - لاہور

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم

فضیلت و عظمت درد شریف

تالیف:۔ میاں عبدالعلی عابد

نیشن
سجادہ میں

حضرت داتا گنج بخشؒ لاہوری

نیکی یا بدی کا حکم کرنا؟

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہئے جب ہم مکمل طور پر نیکیوں پر عمل کریں اور برائیوں سے اس وقت روکنا چاہئے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو۔ تم برائیوں سے روکتے رہو اگرچہ تم تمام و کمال اس سے کنارہ کش نہ ہو سکتے ہو۔ (مکاشفۃ القلوب)

اس حدیث سے یہ مقصد نکلتا ہے کہ گناہ گار ہو یا نیک ہر مسلمان کو نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کا حکم کرتے رہنا چاہئے۔

فرمان نبوی ﷺ

بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اور بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ (مکاشفۃ القلوب)

هُوَ الْقَادِرُ

ایصالِ ثواب

نبی پاک ﷺ کی تمام امت کے لئے خاص کر

اہل خاندان و بیگم و میاں محمد صدیق صاحب سجادہ نشین

حضرت داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ

اور

میری ساس صاحبہ، سر صاحب اور بابا ابراہیم صاحب مرحوم مغفور

کے لئے

منجانب:- میاں عبدالعلی عابد

میں یہ کتاب جناب _____ میں یہ کتاب جناب _____
 کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس
 کتاب کو خود بار بار پڑھیں اور اپنے اہل خاندان کو بھی بار بار پڑھنے
 کی تلقین کریں گے تاکہ آپ خود بھی اور آنے والی نسلیں بھی درود
 شریف کی فضیلت و عظمت سے واقف ہوں۔

یہ کتاب کھونے کے لئے نہیں ہے۔ اسے سنبھال کر رکھیں جب
 بھی پڑھیں گے۔ عاقبت کے لئے فائدہ پہنچائے گی۔

یہ کتاب صرف ان کے واسطے ہے جن کا سینہ دل عشقِ

رسول ﷺ کے لئے دھڑکتا ہے۔

آپ کے لئے دعا گو (تالیف کنندہ)

میاں عبدالعلیٰ عابد

انشاب

حضور پاک ﷺ کے عاشقوں کے نام خصوصاً سلطان العاشقین، خیر التابعین، عارف اولین سردار اوصلین۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام یہ کتاب منسوب کر رہا ہوں، جن کا ہر فعل عشق رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور محبت، اس یار غار کے نام جس نے نبی پاک ﷺ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے مسلمان۔ جن سا کوئی عاشق رسول آیا، نہ آئے گا۔ اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ نبی پاک ﷺ پر قربان کرنے والے۔ جن کا لباس (کمبل) لباس جبریل! جن کو خود نبی پاک ﷺ نے ستاروں میں چمکنے والا چاند کہا۔ جن کو سرکارِ دو عالم ﷺ نے صدیق کا نام دیا۔ جن کو سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنی زندگی میں ہی امام بنا کر اپنا جانشین، خلیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت جبریل امین سے پوچھا گیا۔ اگر آپ انسان ہوتے تو کیا بننا پسند کرتے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق ^{رضی اللہ عنہ} الغرض جتنا کہا جائے کم ہے۔ یہ کتاب اسی ہستی کے نام منسوب کر رہا ہوں۔

دیباچہ

اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ایک انمول نعمت درود شریف ہے۔ جو دینی اور دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بیش بہا خزانوں اور نعمتوں تک پہنچنے کا موجب بنتا ہے۔ جس کو خلوص دل سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور عنایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دنیاوی اور آسمانی آفتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے لاءلاج بیماریوں کا سو فیصد یقینی علاج، درحقیقت درود شریف کا ورد کرنے میں پنہاں ہے۔ ہمارے آقا و مولیٰ حضور اکرم ﷺ کو ہمارے اس درود پاک کا ورد کرنے سے یقیناً راحت ہوتی ہوگی کہ ان کا امتی ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو خداوند کریم کا بھی عمل ہے لیکن امتی کو سب سے بڑا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا

محبوب بندہ بن جاتا ہے۔

درود شریف کو باقاعدہ پڑھنے والوں کے لئے بیش بہا خزانے ہیں جن کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جب درود شریف پڑھتا ہے تو وہ رحمت خداوندی کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور تین قسم کے لاجواب دریاؤں سے آشنا ہوتا ہے یعنی پہلا نور توحید کا دریا۔ دوسرا نور رسالت کا دریا اور تیسرا نور ولایت کا دریا۔ درود شریف پڑھتے وقت جب اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں تو نور توحید کا دریا پالیتے ہیں۔ جب اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد ﷺ کی صفات بیان کرتا ہے تو نور رسالت کی بارش اس پر برستی ہے اور جب وہ یہ عمل جاری رکھتا ہے تو یہ عمل اس کو باقی انسانوں سے ممتاز بنا کر نور ولایت کے دریا سے آشنا کرتا ہے۔

جس طرح سورج سے روشنی اور چاند سے چمک اور ٹھنڈک وابستہ ہے یا جیسے پھولوں میں خوشبو اور جانداروں میں روح اور حیات ہے اسی طرح اسلام میں محمد مصطفیٰ ﷺ اور محمد مصطفیٰ ﷺ میں اسلام پوشیدہ ہے۔ گویا ایک روح دو قالب ہیں۔

لیکن محبت میں ہر چیز جائز ہے۔ اس لئے محبت سے اسے آقا اور اپنے عظیم محسن ﷺ کو ہر وقت، ہر گھڑی، درود شریف کی سوغاتیں بھیجتے رہیں۔ نجات اور عبادت کا آسان نسخہ ہے۔

جس دل میں محمد ﷺ کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکرِ خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی

یہ کتاب

۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۰ ہجری یعنی

عید میلاد النبی ﷺ

کے مبارک دن پیش کی گئی

وجہ کتابت

دلائل الخیرات جو درود شریف کی جامع کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضور پر نور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”کہ جس شخص نے کوئی کتاب لکھ کر مجھ ﷺ پر درود بھیجا (یعنی کتاب میں لکھا) تو جب تک اس کتاب میں میرا نام ﷺ رہے گا خدا کے فرشتے اس آدمی پر درود بھیجنے میں مشغول رہیں گے اور اور اس کی مغفرت اور نجات کی دعائیں کرتے رہیں گے“

کون انسان ہے جو یہ نہ چاہے کہ اس کی مغفرت کے لئے فرشتے دعا کرتے رہیں اس کی دنیاوی زندگی کے لئے بھی اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لئے بھی۔ یعنی انسان مر جائے گا مگر درود شریف پر لکھی کتاب موجود رہے گی اور جب تک کتاب موجود رہے گی فرشتے اس کے لئے مغفرت اور نجات کے لئے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اس وجہ سے اس بندہ ناچیز نے یہ کتاب اپنی دنیا اور

عاقبت سنوارنے کے لئے تحریر کی۔ اللہ تعالیٰ سب پڑھنے والو اور
مجھ لکھنے والے پر تاقیامت اور قیامت کے بعد بھی اپنی رحمت کی
بارش اپنے حبیب ﷺ کے صدقے میں کرتا رہے اور ہم سب کو
بخش دے (آمین)

جب بھی یہ کتاب پڑھنے جائے
میرے حق میں بھی دعا فرمائیے

طالب دعا۔ تالیف کنندہ

میاں عبدالعلی عابد

حبیب ہوٹل D-10 میلہ رام روڈ

چوک داتا دربار لاہور۔

انتباہ

جب بھی کوئی مسلمان درود شریف پڑھے۔ برائے کرم۔ ان تین باتوں کو پڑھ کر درود پاک شروع کرے۔ چاہے روزانہ دن میں ایک بار۔ یا مہینے میں ایک بار۔ یا سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار، خاص بالخاص طور پر ان تین باتوں کو ضرور پڑھ کر درود پاک شروع کرے۔

(۱) صفحہ نمبر 124 جن اوقات میں درود شریف نہیں پڑھنا چاہئے۔

(۲) صفحہ نمبر 126 کو نسا درود شریف پڑھنا چاہئے۔

(۳) صفحہ نمبر 128 درود شریف کس طریقہ سے پڑھنا چاہئے۔

کتاب کا ہدیہ! یہ ہے کہ زندگی میں کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں۔ خود بھی پڑھیں لوگوں کو بھی پڑھائیں۔ شکر یہ

کتاب ملنے کا پتہ

حبیب ہوٹل D-10 دربار مارکیٹ چوک داتا دربار لاہور

نوٹ:- یہ کتاب بذریعہ ڈاک ارسال نہیں کی جائے گی۔ اس سے کتاب کا تقدس پامال ہوتا ہے۔



اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

marfat.com

Marfat.com

دُرُودِ شَرِيف

وہ ذکر ہے
جو فرشِ زمین پر
کیا جاتا ہے
اور
عرشِ بریں پر
سنا جاتا ہے۔

درود شریف

اور

فرمان باری تعالیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا (القرآن)

ترجمہ :- بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس
غیب بتانے والے (نبی ﷺ) پر اے ایمان والو! ان پر درود اور
خوب سلام بھیجو۔

چونکہ ہم حضور اکرم ﷺ کے احسانات کا بدلہ چکانے سے
عاجز ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو یہ آسان
طریقہ سکھایا کہ درود و سلام پڑھو جو دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور
سلام بھی ہے۔ سوغات بھی ہے اور سب سے بڑا ہم مسلمانوں کے
لئے وہ واحد عمل ہے جو خدا بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں

یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی درود شریف بھیجتا ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں۔

یعنی وہ واحد عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں۔

خداوند کریم سب حاکموں کا حاکم ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے۔

صرف ان کو جو ایمان والے ہیں۔ نبی پاک ﷺ سے محبت رکھنے

والے ہیں کہ میں (اللہ) بھی درود بھیجتا ہوں۔ اے ایمان والو تم

بھی درود بھیجو۔ کل کائنات کا بادشاہ حکم دے رہا ہے اور چاہتا ہے

کہ اس کی مخلوق اس کے محبوب ﷺ پر درود و سلام پیش کرے۔ اس

کے لئے یہی خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کو محبوب رکھے چونکہ

خداوند کریم کو حضور اکرم ﷺ سے بے پناہ محبت ہے۔ اسی لئے وہ اس

بات کو چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق آنحضرت ﷺ سے محبت کرے۔ یہ

نبی پاک ﷺ کی محبت ہی کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اہل ایمان کو

ان ﷺ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے چونکہ اپنے محبوب ﷺ کی

محبت میں خود بھی درود بھیجتا اور اس کے ملائکہ بھی درود و سلام بھیجتے

ہیں۔ اس لئے اہل ایمان کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ہم بھی

ایسا کرتے ہیں۔ تم بھی ایسا کرو۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود شریف اللہ کا ذکر ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

یعنی بلند کیا ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر

امام علامہ قاضی عیاض اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حق

تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ سے ارشاد فرمایا ہے کہ۔

”میں نے تمہیں ﷺ اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا جس نے

تمہارا اعلیٰ ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا“

اس کا صاف اور آسان مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور اکرم ﷺ

پر درود و سلام پڑھا تو اس نے تحقیق اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ نہ فقط ذکر

بلکہ عالیشان ذکر کیا۔

جو ہے وظیفہ رب وہ ذکر رسول ہے

ذکر رسول ہی تو خدا کو قبول ہے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

درود شریف

اور

چھوٹا سا ثواب

حضرت مولانا محمد علی خان مرحوم راجپوری اپنی مشہور کتاب فلاح دین و دنیا میں فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقِ دل سے ایک مرتبہ حضرت رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ پر درود بھیجتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔

ایک لاکھ نیکیاں اس کے اعمال نامہ میں لکھی جاتی ہیں اور اس کا نام زندہ اولیاء میں تحریر ہوتا ہے۔ یہ ہے مختصر اور درود شریف پڑھنے کا چھوٹا سا ثواب۔

ذکر حبیب ﷺ کم نہیں وصل حبیب سے ﷺ

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم

خدا چاہتا ہے رضائے محمد ﷺ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ

عظمت درود شریف

زہرۃ الریاض میں یہ حدیث درج ہے۔ ایک دن حضرت جبریل امین حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ”میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا۔ اور ستر ہزار فرشتے صف بستہ اس کی خدمت میں حاضر تھے اس کے ہر سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ابھی ابھی میں نے اسے شکستہ پروں کے ساتھ کوہ قاف میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا تم اللہ تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرو۔ میں نے پوچھا تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا معراج کی رات جب محمد ﷺ کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا تعظیم کے لئے کھڑا نہیں ہوا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ جبریل امین نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رورور کر اس کی سفارش کی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تم اس سے کہو کہ یہ محمد ﷺ پر درود بھیجے چنانچہ اس فرشتے نے آپ ﷺ پر درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس لغزش کو معاف کر دیا

اور اس کے لئے پر بھی پیدا فرمادئے۔ اس سے پہلی بات یہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور غصہ کو درود شریف ٹھنڈا کر دیتا ہے دوسری یہ کہ درود شریف کی وجہ سے فرشتے کو مغفرت ملی اور سب سے اہم تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کی تعظیم و تکریم و عزت چاہتا تھا یہاں تک کہ نبی پاک ﷺ کی بے ادبی کے لئے فرشتے کو بھی معاف نہیں کیا۔ (مکاشف القلوب)

اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا آسان ترین نسخہ نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنا۔

خدا کا غصہ مٹاتا ہے درودِ پاک
 خدا کے قہر سے بچاتا ہے درودِ پاک
 خدا کی رضا ہے تعظیمِ رسول میں
 سب کو معافی دلاتا ہے درودِ پاک

تخلیق:۔ عبدالعلی عابد

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ

کیا بدکار کا کفن و دفن نبی کرے

وجہ

درود شریف

علامہ سخاوی تواریخ سے نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بدکار اور گناہ گار تھا۔ تمام شہر اس کی بدکاری اور گناہوں کی وجہ سے تنگ تھا جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کا کفن و دفن بھی گوارا نہ کیا اور اس کی لاش کو بے گور و کفن کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا۔ یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس شخص کو غسل دے کر خود نماز جنازہ پڑھیں کیونکہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور اس کی مغفرت کر دی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ یا اللہ! کیسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اس شخص نے ایک رات تورات میں

میرے پیارے نبی محمد ﷺ کا نام دیکھا تو اسے تعظیم و تکریم کے ساتھ چوم لیا اور ان ﷺ پر درود پڑھا۔ میں نے اس درود شریف کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔

سبحان اللہ ایک درود شریف کی وجہ سے رب تعالیٰ نے سخت گناہ گار کو معاف کر دیا۔

درودِ پاک کا ورد جو کرتے ہیں
دین و دنیا کو سنوارا کرتے ہیں
یہ جہاں تو کوئی چیز نہیں
لوحِ قلم کو سنوارا کرتے ہیں

تخلیق: عبدالعلی عابد

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ

درود شریف کی برکت

نزہۃ المجالس میں ہے ایک عورت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی۔ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھوں کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد چار رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں فاتحہ شریف کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر ایک مرتبہ پڑھ کر لیٹ جا اور نبی کریم ﷺ پر درود شریف پڑھتی سو جا۔

اس عورت نے ایسا ہی کیا جب سو گئی تو اس نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے اس نے دوزخ کے تار کول کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ہیں۔

اس عورت نے دوسرے دن آپ کو یہ خواب سنایا۔ آپ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت حسن بصری نے اس لڑکی کو

جنت میں دیکھا، وہ ایک تخت پر بیٹھی ہے اور اس کے سر پر نورانی تاج ہے۔ وہ آپ سے کہنے لگی آپ مجھے پہچانتے ہیں۔ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا کہ قبرستان کے قریب سے ایک عاشق رسول گزرا اور اس نے حضور نبی پاک ﷺ پر درود بھیجا۔ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پانچ سو قبر والوں سے عذاب اٹھالیا۔ سبحان اللہ۔

(مکاشفہ القلوب)

لب پہ جب ان کا نام آتا ہے
 لامکاں سے سلام آتا ہے
 نام نامی رسولِ اکرم کا
 ہر مصیبت میں کام آتا ہے
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ الْكَوْثَرِ

درود شریف راہ نجات

کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک صورت بد کو دیکھ کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور اکرم ﷺ پر درود پڑھنا۔

جیسا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا ہے میرے ﷺ اور درود پڑھنا پل صراط پر نور ہے جو مجھ ﷺ پر جمعہ کے دن اسی مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اس کے اسی سال کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (مکاشفۃ القلوب)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔“

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيلَ اللَّهِ

درود شریف

اور

امتی کی پہچان

ایک آدمی حضور اکرم ﷺ پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور اکرم ﷺ کو دیکھا۔ آپ ﷺ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ کیا حضور اکرم ﷺ مجھ سے ناراض ہیں اس لئے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ ﷺ نے جواب دیا ”نہیں میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔“ عرض کی گئی حضور اکرم ﷺ مجھے کیسے نہیں پہچانتے۔ حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ ﷺ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا علماء نے سچ کہا ہے مگر تم نے درود بھیج کر مجھے ﷺ اپنی یاد نہیں دلائی میرا ﷺ کوئی امتی مجھ ﷺ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں ﷺ اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ ایک سو مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع

کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد حضور اکرم ﷺ کے دیدار سے پھر خواب میں مشرف ہوا آپ ﷺ نے فرمایا۔ میں ﷺ اب تمہیں پہچانتا ہوں اور میں ﷺ تیری شفاعت بھی کروں گا۔ (مکاشفۃ القلوب)
سبحان اللہ مسلمانو!

خوب پڑھو درود شریف

اور خوب کرواؤ

اپنی اپنی پہچان

ہر کوئی چاہتا ہے خدا کی رضا

خدا چاہتا ہے رضائے محمد ﷺ

ذکرِ رسول کرتے ہیں جو درود سے

ان ہی کو پہچانتے ہیں سرکارِ محمد ﷺ

تخلیق:۔ عبدالعلی عابد

وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

درود شریف

اور

سب سے بڑا بخیل

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! کیا میں ﷺ تم کو سب سے زیادہ بخیل کے بارے میں بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ضرور فرمائیے ارشاد ہوا۔

مَنْ ذَكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فِدَايِكَ أَبْخَلُ النَّاسُ

ترجمہ:- جس کے سامنے میرا ﷺ ذکر کیا جائے اور وہ

مجھ ﷺ پر درود نہ پڑھے۔ وہ بڑا بخیل ہے۔ “(کشف الغمہ)

حضرت براء بن عازبؓ نے کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے جو

مجھ ﷺ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں

دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور دس گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے دس

درجے بلند کرتا ہے اور یہ دس غلام آزاد کروانے کے برابر ہیں۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَحْمَدُ

marfat.com

Marfat.com

نبی پاک ﷺ کی

زیارت سے محروم

کشف الغمہ اور افضل الصلوٰۃ پر یوں درج ہے کہ سرکارِ دو جہاں آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”ویل“ ہے اس شخص کے لئے، تباہی ہے اس شخص کی جو قیامت کے روز میری ﷺ زیارت سے محروم رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے استفسار کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ اس شخص کی نشان دہی فرمائیے جو روزِ محشر کو آپ ﷺ کی زیارت سے محروم رہے گا بد بخت اور بد نصیب ہوگا جو آپ ﷺ کے دیدار کی سعادت حاصل نہ کر پائے گا۔ فرمایا ﷺ نے وہ شخص جو کہ بخیل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ کون سے بخیل کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ جواب ملا۔ ایسا بخیل جس کے سامنے میرا ﷺ نام لیا جائے اور وہ مجھ ﷺ پر درود نہ بھیجے۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُرَبِّمَلِكِ

درود شریف

اور

بخیل کا انجام

ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے لئے قبر کھودی گئی۔ قبر میں ایک خوفناک کالا سانپ نظر آیا۔ لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی وہاں بھی وہی خوفناک کالا سانپ موجود تھا تیسری جگہ قبر کھودی وہی خوفناک کالا سانپ وہاں بھی موجود تھا۔ آخر کار سانپ نے زبان سے پکار کر کہا۔ ”تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہی پہنچوں گا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا یہ قہر اور غضب کیوں؟ سانپ بولا یہ شخص جب سرکار مدینہ ﷺ کا نام نامی سنتا تھا تو درود پڑھنے سے بچل کرتا تھا۔ اب میں اس بچل کی سزا دیتا رہوں گا۔“ (مکاشفۃ القلوب۔ فیضان سنت)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُصْطَفَى

درود شریف

اور

ذکر نبی ﷺ

درود شریف یعنی صلوٰۃ شریف حضور اقدس ﷺ کا ذکر ہے جو ذکر الہی سے جدا نہیں بلکہ سو فیصد ذکر الہی ہے۔

حضور اکرم ﷺ پر درود پڑھنا اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ فعل الہی ہے کیونکہ خدا خود حضور اکرم ﷺ پر درود پڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے ۲۲ ویں پارے کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

”اللہ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر درود بھیجتے ہیں اے مومنو! تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔“

حدیث شریف میں آیا ہے ”جس کے دل میں محبت نہیں ہے ایمان

نہیں ہے۔ محبت کو پیدا کرنے والا سب سے اکیسر نسخہ درود شریف ہے۔ سب سے بڑا فائدہ درود شریف کا یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ محبت اللہ تعالیٰ تک بجلی کی طرح پہنچا دیتی ہے۔ ”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے دن بھر میں مجھ ﷺ پر ایک ہزار بار درود پاک پڑھا۔ وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے۔“

درود و سلام حکم قرآن ہے
حکم قرآن ہی میرا ایمان ہے
کام وہ جو خدا اور فرشتے کرتے ہیں
وہ درود ہی قل کائنات کی جان ہے

تخلیق:۔ عبد العلی عابد

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمَدِينِ

استغفار پڑھو

یا

درود شریف

حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ استغفار اور درود میں سے درود شریف کو بہتر جانو۔ درود شریف پڑھو اور استغفار کا کام حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں دے دو کیونکہ درود شریف تو سراسر فعل الہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اس کے منظور ہونے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر استغفار دعا کی ایک درخواست ہے ہمیں یقین نہیں کہ قبول ہوگی یا نہیں اگر دعا میں اخلاص وغیرہ شامل نہیں تو اس کے قبول نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے استغفار کا یقین نہیں کیا جاسکتا اور درود شریف قبول ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس لئے کامیاب اور اطمینان بخش طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد جاری رکھیں اور استغفار کا کام حضور پر نور ﷺ پر چھوڑیں۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی امت کے لئے استغفار

کرتے رہتے ہیں اور حضور پر نور ﷺ کی استغفار اور دعا ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے۔ ادھر ہمارا درود شریف قبول ادھر حضور اکرم ﷺ کی دعا اور استغفار قبول دونوں طرف کامیابی ہی کامیابی۔ (دونوں قبول) ”ابو جعفرؑ نے حضرت ابن مسعودؓ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس نماز میں حضور نبی کریم ﷺ پر درود شریف نہ پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔“

نہ پڑھو گے درود تو نماز ہی نہ ہوگی
جو بھی کرو عبادت قبول ہی نہ ہوگی
درود و سلام پڑھو گے تو خدا بھی خوش ہوگا
خدا جو ہو ناراض کوئی بات ہی نہ ہوگی

تخلیق:۔۔ عبدالعلی عابد

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ

درود شریف

اور

عبادت قبول یا نہ قبول

حضرت شیخ ابو سلیمان دارانیؒ سے نقل ہے کہ اللہ کے حضور تمام عبادتوں کے قبول ہونے اور نہ قبول ہونے کا خطرہ رہتا ہے لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔

حضور اکرم ﷺ پر درود شریف ہر حال میں مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے اس لئے ہر دعا میں درود شریف پڑھنا یقیناً دعا قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔

جہاں تک ہو سکے ہم گناہ گاروں کو اس فتنے فساد کے زمانے میں درود شریف کا زیادہ سے زیادہ درود رکھنا چاہئے اور اپنے قلب کو منور کرنا چاہئے۔ اس عمل سے یعنی درود و سلام پڑھنے سے قلب منور ہوتا ہے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں اور اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ امیدیں بر آتی ہیں فتح اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی

ہے اور سب سے زیادہ اور اہم یہ کہ قیامت کے سخت ترین دہشتناک دن میں درود و سلام پڑھنے والے کو امن اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ یہ نعمت ہر ایک کو نصیب کرے۔ (آمین)

نہ ہوگی قبول کوئی دعا بغیر درود کے
 نہ مل سکے گا تم کو رب بغیر درود کے
 جو چاہتے ہو خدا کی رضا تو درود پڑھو
 نہ پاسکو گے تم جنت کو بغیر درود کے

تخلیق:۔ عبدالعلی عابد

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ

درود شریف

اور

عرش کا سایہ

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہونگے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہونگے۔

(۱) وہ شخص جو میرے صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کی پریشانی دور کریگا۔

(۲) میری صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو زندہ کرنے والا۔

(۳) مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔

ہر مشکل میں کام آتا جو ہے وہ ہے درودِ پاک
دوزخ سے ہم کو بچاتا جو ہے وہ ہے درودِ پاک
شفاعتِ رسول چاہتے ہو تو درود پڑھو
سایہ عرش میں جگہ دلاتا جو ہے وہ ہے درودِ پاک

تخلیق... عبدالعلی عابد

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

درود شریف کی اصلی حقیقت

افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہا گیا ہے۔ مگر اس کلمہ میں صرف یہی جن کو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ افضل الذکر اس لئے ہے کہ اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ اور محمد ﷺ دونوں کے نام ایک ساتھ آگئے ہیں۔ درود شریف میں بھی دونوں نام آگئے ہیں، مگر دیکھئے کیا راز سمویا گیا ہے ایک سے التجا کی گئی ہے اور دوسرے کے لئے دعا مانگی گئی ہے۔ یعنی دونوں کو ہم بذات خود مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ سے عرض کی گئی ہے کہ محمد ﷺ کے اوپر اور ان کی اولاد کے اوپر سلامتی بھیجو۔ یہ الفاظ خود اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں۔ اتنے بڑے مالک اور اتنی پاک و اعلیٰ ہستی کی ہاں میں ہاں ملانا کتنا عالیشان کام ہے کتنا زبردست اور کتنا مایہ ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی ہم بات کر

رہے ہیں اور حضور اکرم ﷺ سے بھی اس لئے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل الذکر ہے تو اللہم صل علی محمد وعلی ال محمد و باریک وسلم اعلیٰ ترین دعا ہے۔ وہ افضل الذکر۔ یہ افضل الدعاء۔ اس دعا کو مانگنے سے خدا بھی خوش اس کا رسول ﷺ بھی خوش فرشتے بھی خوش تو روح بھی خوش غرضیکہ زمین سے آسمان تک سب مخلوق بمع اپنے خالق کے خوش ہی خوش اور رحمت کی بارش فوراً برسنے لگتی ہے۔ ”سبحان اللہ“۔

نافقہ کلمہ افضل الذکر اور درود شریف افضل الدعاء بلکہ یہ فلسفہ بھی افضل الفلسفہ ہے۔ بلکہ اعلیٰ ترین فلسفہ ہے۔ بس قصہ مختصر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

برکت درود شریف

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مجھ ﷺ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے۔ پھر اس بادل کو بحرِ رحمت سے استفادہ کرنے کا حکم ملتا ہے۔ لہٰذا کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سونا۔۔۔ جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔

(مکاشفۃ القلوب)

حضرت سیدنا فاروق اعظمؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جو بندہ مجھ ﷺ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اب بندہ کی مرضی ہے کہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ (القول البدیع)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْغَرِيبِينَ

درود شریف

اور

حق مہر

جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، آپ اس وقت خواب میں تھے جب بیدار ہوئے تو حوا کو دیکھ کر ان کی طرف دست تصرف بڑھایا تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ جب تک اس سے نکاح اور حق مہر ادا نہ کر دو ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، حضرت آدم نے پوچھا ان کا حق مہر کیا ہے فرمایا گیا آخر زمان نبی حضرت محمد ﷺ کے اوپر دس مرتبہ درود شریف پڑھو یہ حق مہر ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نسان تھے جنہوں نے درود شریف حق مہر کے لئے ادا کیا۔

(انوار محمدیہ، سیرت النبی، مدارج حصہ دوم)

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا شَمْسَ الْعَارِفِیْنَ

درود شریف

اور

گناہوں سے نجات!

فرمایا

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

نے

حضور ﷺ پر درود بھیجنا

گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے

جیسے ٹھنڈا پانی بھڑکتی ہوئی

آگ کو

(اصفہانی شفا شریف)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ

درود شریف

اور

قبر سے خوشبو

حضرت ابو عبد اللہ محمد بن سلیمان شاذلی الجزویؒ نے درود شریف پر بہت مشہور کتاب ”دلائل الخیرات“ لکھی آپ کی وفات ربیع الاول ۸۷۰ ہجری بمقام سوس نماز فجر کی پہلی رکعات کے دوسرے سجدے میں ہوئی۔ بعد از نماز ظہر آپ کو مسجد کے صحن میں دفن کر دیا گیا۔

وصال کے ۷۷ سال بعد مراکش کے بادشاہ نے آپ کے جسم اطہر کو سوس سے مراکش منتقل کیا۔ جب آپ کے جسد اطہر کو قبر سے نکالا گیا تو بالکل تروتازہ تھا معلوم ہوتا تھا زمین کا مطلق کوئی اثر نہ ہوا تھا جیسے کے ابھی ابھی آپ کا وصال ہوا ہے آپ کی داڑھی مبارک ایسی تھی جیسے آج ہی خط بنا کر لیٹے ہیں بلکہ کسی نے امتحان آپ کے رخسار مبارک کو انگلی سے دبایا جب انگلی ہٹائی تو اس جگہ

سے خون ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید ہو گئی جیسے زندوں کا ہوتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی۔

آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کی قبر انور سے مشک و عنبر کی خوشبو مہکتی ہے یہ سب کچھ درود شریف کی بدولت ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ فرمائیں کہ اگر آپ ﷺ کی ذابت بابرکات پر درود شریف ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لئے کافی ہے۔ (القول البدیع)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَسِيلَتَنَا فِي الدَّارَيْنِ

درود شریف

اور

دلائل الخیرات لکھنے کی وجہ

حضرت شیخ ابو عبد اللہ بن سلیمان شاؤلی الجزولی آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شہر فاس کے قریب کسی گاؤں سے میرا گزر ہوا نماز ظہر کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ تلاش بسیار کے بعد کنواں ملا مگر پانی نکالنے کا کوئی بندوبست نہ تھا بہت کوشش کے باوجود پانی کنویں سے باہر آنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی عجیب پریشانی میں کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا کہ کچھ فاصلے پر ایک مکان میں سے ۹ سالہ بچی حضرت کی اس پریشانی کو دیکھ رہی تھی وہ حضرت شیخ کے پاس آئی اور سب معلوم ہونے پر اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنویں میں جوش آیا اور پانی اوپر آکر ہر طرف باہر بہنے لگا۔ شیخ رحمتہ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوتے ہی اس لڑکی کے گھر گئے اور بچی کو اللہ جل شانہ اور رسول مقبول ﷺ کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ یہ مقام آپ کو کس طرح حاصل ہوا۔ جواب

میں لڑکی نے ایک درود شریف پڑھ کر آپ کو سنایا کہ یہ درود شریف پڑھ کر میں نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا تھا آپ (شیخ) اس واقع سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے بھی درود شریف پر مشہور کتاب ”دلائل الخیرات“ لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کا درود شریف بھی اس کتاب میں موجود ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے مجھ ﷺ پر درود پاک پڑھنے والے کو بل صراط پر عظیم نور عطا ہوگا اور جس کو بل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

درود شریف

اور

میزان کا پلٹا

مواہب لدنیہ میں تفسیر قشیری سے نقل ہے کہ قیامت میں جب کسی مومن کی نیکیاں کم وزن ہو جائیں گی تو رسول اللہ ﷺ ایک پرچہ سر انگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے۔ جس سے نیکیوں کا پلہ وزن ہو جائے گا مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہو جائیں آپ ﷺ کی صورت اور سیرت کتنی اچھی ہے۔ آپ ﷺ جو اب دیں گے میں تیرا نبی ﷺ ہوں اور یہ درود شریف جو تو نے مجھ ﷺ پر پڑھا تھا وہ پرچہ ہے۔ جو سر انگشت کے برابر میزان میں رکھا ہے اب تیری حاجت کے وقت اس درود شریف نے حق ادا کر دیا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

رب الہی (اللہ تعالیٰ) کی

رحمت سے محروم ہونا

طبرانی کی حدیث ہے حضور اکرم ﷺ ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آمین، آمین، آمین۔ پھر فرمایا کہ جبرئیل آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اس سے حسن سلوک نہ کیا اور مر گیا تو وہ جہنم میں گیا اللہ نے اسے دور کر دیا۔ آپ ﷺ آمین کہیں تو میں ﷺ نے آمین کہی، پھر جبرئیل نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور گناہ بخشائے بغیر مر گیا تو وہ جہنم میں گیا۔ اللہ نے اسے دور کر دیا۔ آپ ﷺ آمین کہیں تو میں ﷺ نے آمین کہی پھر جبرئیل نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جس شخص کے سامنے آپ ﷺ کا ذکر ہو اور اس نے آپ ﷺ پر درود نہ بھیجا اور مر گیا تو وہ جہنم میں گیا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے

ہی دور کر دیا کہئے آمین تو میں ﷺ نے کہا آمین۔

ذرا غور کریں۔ ماں باپ کا نافرمان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا ماہ رمضان میں گناہ نہ بخشانے والا بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے مگر سبحان اللہ! سرکارِ دو عالم ﷺ پر درود نہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو اسے چاہئے کہ مجھ ﷺ پر درود پاک کی کثرت کرے (القول البدیع)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّكِيَّةِ

درود شریف

اور

قبر میں مدد

شیخ المشائخ شبلی نور اللہ مرقدہ سے نقل کیا گیا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک آدمی مر گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری اس شخص نے کہا میرے اوپر سخت سے سخت اور عجیب و غریب پریشانیاں گزریں جب فرشتوں نے منکر نکیر کے جوابات مکمل نہ دینے پر مجھے عذاب دینے کا ارادہ کیا تو ایک نہایت حسین و جمیل شخص میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گیا اس مبارک شخص سے اعلیٰ درجے کی خوشبو آرہی تھی اس نے فرشتوں کو میری طرف سے جوابات دیئے اور میں بچ گیا میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں جو اس مصیبت میں میرے کام آئے تو انہوں نے کہا میں تیری کثرت درود شریف سے پیدا کیا گیا فرشتہ ہوں مجھ کو حکم ہے کہ ہر مصیبت میں تیرا ساتھ دوں اور مدد کروں۔ یہ ہے عنایت اور درود شریف کی برکت۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُدَبِّرُو

پاکیزگی کا نسخہ

درود شریف

سب سے پہلے قبر میں جس کا سوال ہونے والا ہے وہ روح ہے روح کو پاک کرنے کے لئے درود شریف سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم اوپر زیادہ سے زیادہ خوب درود پڑھو اس لئے کہ تمہارے لئے موجب پاکی ہے (ابو اعلیٰ موصلی) اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا اعلان کر دیا کہ پاکیزگی کا نسخہ درود شریف ہے۔ درود شریف انسان کو اور اس کی روح کو اس طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہاں تک کہ جن باعمل عالموں اور محدثوں اور فقیروں نے درود اور سلام پر کمر باندھی ہے۔ ان کو خدا کے فضل و کرم سے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی برکت سے لاکھوں گناہ گاروں کی شفاعت کی بشارت اس دنیا میں مل گئی ہے ان فقیروں اور محدثوں کو انشاء اللہ تعالیٰ روز قیامت گناہ گاروں کو

شفاعت کرنے کا حق خود حضور پر نور ﷺ عطا فرمائیں گے۔
 جیسا کہ باکمال عاشق رسول حضرت اویس قرنیؓ کو حضور پر نور ﷺ نے
 حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے ہاتھوں پیغام بھیجا کہ آپ بھی امت
 محمدیہ ﷺ کے واسطے بخشش کیلئے دعا مانگیں حالانکہ شفاعت کی مالک
 خود حضور اکرم ﷺ کی ہستی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور
 اکرم ﷺ کے صدقے اور حضور اکرم ﷺ کی سفارش پر یہ اعزاز
 حضور اکرم ﷺ کی امت کے چند افراد کو بھی دیا ہے اور کیا اعلیٰ
 ترین اعزاز ہے۔ (سبحان اللہ)

چنانچہ ایک بہت بڑے محدث عالم حضرت شیخ شازلی رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ جن کی یہ شان تھی کہ پانچوں وقت نماز حضرت رسول
 مقبول ﷺ کے پیچھے ادا فرماتے تھے ایک روز رسول اکرم ﷺ
 نے فرمایا اے شازلی تو قیامت کے روز ایک لاکھ آدمیوں کی
 شفاعت کرے گا کیونکہ تو محبت اور اخلاص کے ساتھ مجھ ﷺ پر
 درود شریف بھیجتا ہے۔ (معراج المؤمنین)

درود شریف پڑھنے سے آدمی ایسا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے

جس کا اس دنیا میں کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا حضور اکرم ﷺ نے خود فرمایا ہے کہ جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے ﷺ نزدیک ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم محبوب خدا ﷺ کے ساتھ ہونگے جو لولاک کے مالک ہیں۔

(۱) درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہو جاتی ہے۔

(۲) درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔

غموں سے نجات دلاتا ہے درود پاک
 بگڑی میری بناتا ہے درود پاک
 نبی پاک کی قربت دلاتا ہے درود پاک
 حشر میں تاج پہناتا ہے درود پاک

تخلیق:۔ عبدالعلی عابد

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

درود شریف

اور

امیر ہونے کا نسخہ

شرح احیاء علوم دین میں روایت ہے کہ کثرت سے رسول اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنا فائدہ افلاس اور غربت کو دور کرتا ہے۔ واقعی اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد ۳۱۳ مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ درود شریف پڑھے جلد از جلد امیر ہو جائے گا حدیث شریف میں ہے جو کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو حضور اکرم ﷺ اس کے کاروبار کے متولی اور وکیل ہوں گے۔ حشر، حساب اور میزان میں تولنے کے وقت، پل صراط پر چلنے کے وقت اس کے علاوہ سب گناہ بخشوا کر اس شخص کو جنت میں داخل کروائیں گے۔

انشاء اللہ (ترتیب الصلوٰۃ)

صاحب تحفہ الاخبار نے یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان فرمایا جو مجھ ﷺ پر پانچ سو بار درود شریف پڑھے گا وہ کبھی

محتاج نہ ہو گا ایک نیک آدمی تھا اس نے یہ حدیث سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ پانچ سو بار درود شریف کا روزانہ کا ورد شروع کر دیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس، غریب اور حاجت مند تھا۔

برکتِ رزق بڑھاتا جو ہے وہ ہے درودِ پاک
 ہم کو مدینہ پہنچاتا جو ہے وہ ہے درودِ پاک
 خدا کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو درود پڑھو
 ہم کو رب سے ملانا جو ہے وہ ہے درودِ پاک

تخلیق:۔ عبدالعلی عابد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

درود شریف

اور

1965ء کی جنگ آزادی

1965ء کی پاک بھارت جنگ میں سیالکوٹ کے مورچہ پر ہندوستان نے شہر میں ٹینکوں، ٹینک شکن توپوں، بکتر بند گاڑیوں اور خود کار ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کر دیا تو ایس۔ اے زبیری کہتے ہیں مجھے حکم ملا کہ اللہ تعالیٰ کے سہارے دشمن پر حملہ کر دو چنانچہ فرماتے ہیں میں اور میرے ساتھیوں نے صرف چار ٹینکوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے دشمن پر چڑھائی کر دی۔ بس ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے ٹینک آگ میں لپٹ چکے تھے اور ان کا غرور خاک میں مل گیا تھا۔

(روزنامہ کوہستان ۱۲۵ اکتوبر ۱۹۶۵ء)

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

درود شریف

اور

آج کے دور کا انوکھا واقعہ

لاڑکانہ کے گاؤں وارہ میں بدھ کے روز دو افراد میں اس بات پر مناظرہ ہوا کہ حضور اکرم ﷺ حاضر و ناظر اور نبی مختار ہیں جس پر ایک شخص ہارون نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا دونوں دیہاتیوں میں یہ شرط لگ گئی کہ آگ میں کود جاتے ہیں جو سچا ہوگا آگ سے محفوظ رہے گا چنانچہ محمد پناہ ٹوٹانی نامی شخص حضور اکرم ﷺ پر درود و سلام پڑھتا ہوا دوسرے شخص ہارون کے ساتھ آگ میں کود پڑا تاہم خدا کی قدرت اور درود پاک کی برکت سے محمد پناہ ٹوٹانی صحیح سلامت رہا جبکہ نبی پاک ﷺ کو حاضر و ناظر نہ ماننے والا دیہاتی ہارون بری طرح جھلس گیا جسے ہسپتال میں داخل کرادیا گیا۔ سینکڑوں افراد نے یہ منظر دیکھا اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔

(روزنامہ نوائے وقت اسلام آباد ۱۳ فروری ۱۹۹۸ء)

اسی خبر کو لاہور سے ”روزنامہ خبریں“ نے اس طرح لکھا ہے۔
 لاڑکانہ کے گاؤں میں ہارون نامی آدمی نے حضور اکرم ﷺ کو حاضر
 و ناظر اور آخری نبی ہونے سے انکار کر دیا جس پر اس علاقے کے
 ایک اور شخص محمد پناہ ٹوٹانی نامی نے اس سے مناظرہ کیا اور پھر
 دونوں میں یہ شرط طے پائی اس امر کا فیصلہ آگ سے گزر کر کیا
 جائے گا جو حق پر ہو گا وہ آگ سے محفوظ رہے گا چنانچہ آگ جلائی گئی
 اس موقع پر سینکڑوں افراد جمع ہو گئے جن کے سامنے محمد پناہ نامی
 شخص درود و سلام پڑھتا ہوا آگ سے گزر گیا اور اللہ کی قدرت سے
 وہ بالکل صحیح سلامت رہا آگ اسے کوئی گزند نہ پہنچا سکی جس کے بعد
 ہارون نے آگ سے گزرنے کے لئے پاؤں رکھا ہی تھا کہ وہ تجلس گیا
 اس منظر کو دیکھنے والے تمام افراد باوازدرو و پاک پڑھنے لگے۔

(روزنامہ خبریں لاہور، ۲۴ فروری ۱۹۹۸ء)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ

درود شریف

اور

علامہ اقبال حکیم الامت

ڈاکٹر عبدالمجید ملک نے علامہ محمد اقبال سے عرض کیا کہ آپ حکیم الامت کب سے بن گئے؟ علامہ صاحب نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل نہیں آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں ملک صاحب نے عرض کیا وہ کیسے؟ علامہ اقبال نے فرمایا میں نے گن کر ایک کروڑ بار درود شریف پڑھا ہے آپ بھی اس نسخے پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ (نوائے وقت ۱۴ اپریل ۱۹۸۸ء)

علامہ محمد اقبال کی یہ نبی پاک ﷺ سے محبت اور درود شریف کی برکت تھی کہ آپ اتنے پائے کے مفکر اور حکیم الامت بنے اور آپ نے کہا!

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ

درود شریف

اور

سچائی کا بول بالا

وسیلۂ اعظمیٰ میں حکایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم ﷺ کے پاس آکر سلام کیا۔ اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی نبی پاک ﷺ کے ساتھ تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور کہا اس نے میرا اونٹ چرا لیا۔ اس وقت اونٹ نے آواز دی جس کے سنتے ہی حضور اکرم ﷺ اونٹ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین آئے اور عرض کی کہ یہ شخص بے گناہ ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے اس عربی کو کہا تو جھوٹا ہے چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر گیا۔

پھر نبی کریم ﷺ نے پہلے اونٹ والے آدمی سے پوچھا ”جس وقت تو یہاں کھڑا تھا کیا کر رہا تھا۔ اس آدمی نے عرض کیا میرے

ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں اس وقت جب میں آپ ﷺ کے سامنے کھڑا تھا صرف درود شریف پڑھ رہا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اس وقت فرشتوں نے تمام آسمان کو بھر دیا تھا یعنی درود شریف کی برکت سے فرشتے اس قدر نازل ہوئے کہ تمام آسمان فرشتوں سے بھر گیا۔

درود شریف نور ہی نور ہے اس لئے اس کے پڑھنے سے نور بھر جاتا ہے۔ ہر چیز اس میں صاف نظر آتی ہے اور حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو خطبہ دیتے ہوئے دوران خطبہ سنا ”بندہ جب تک مجھ ﷺ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے مجھ ﷺ پر درود پاک کم پڑھو یا زیادہ۔“

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا دَامَتِ الْبَرَكَاتُ

درود شریف

اور

عید کی

حضرت شیخ ابوالحسن بن حارث لیثی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پابند شریعت اور تابع سنت اور درود شریف کی کثرت کرنے والے بزرگ تھے فرماتے ہیں۔ مجھ پر گردش کے دن آگئے۔ فقر اور تنگدستی یہاں تک بڑھی کہ فاقہ کی نوبت آگئی۔ اسی عالم میں فاقہ مستی میں عید کی رات آگئی۔ میں بے حد پریشان تھا کہ صبح عید کا دن ہے۔ بچوں کے لئے نہ کوئی نئے کپڑے ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ ابھی رات کی چند گھڑیاں ہی گزری ہوں گی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں قندیلیں اٹھائے کچھ لوگ دروازے پر کھڑے ہیں میں بے حد پریشان تھا کہ نہ جانے اس وقت یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی جو اس علاقہ کا رئیس تھا آگے بڑھا اور اس نے بتایا الحمد للہ ابھی

ابھی میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں نبی اکرم ﷺ کو دیکھا میرے گھر تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ ابوالحسن، اس کے بچے بڑی تنگدستی اور فقر و فاقہ کے دن گزار رہے ہیں۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے جا اور جا کر ان کی خدمت کر اس کے بچوں کیلئے کپڑے بھی ساتھ لیتا جا اور کچھ خرچی بھی دے آ۔ تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں اور خوش ہو جائیں۔ یہ کچھ سامان عید قبول فرمائیں اور میں درزی کو بھی ساتھ لیتا آیا ہوں آپ بچوں کو بلا لیں تاکہ ان کے لباس کا ناپ لے کر ان کے کپڑے تیار کر دیئے جائیں۔ پھر اس رئیس نے درزیوں کو حکم دیا کہ پہلے بچوں کے کپڑے تیار کرو اور بعد میں بڑوں کے۔

لہذا صبح ہونے سے پہلے سب کچھ تیار ہو گیا اور صبح گھر والوں نے خوشی خوشی عید منائی۔ یہ سب کچھ کثرت درود شریف کی برکت اور نبی پاک ﷺ کی مدد ہے۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الْعَالَمِينَ

درود شریف

اور

ایک لاکھ ساٹھ ہزار حج

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص حج کر کے جہاد میں شرکت کرے تو اس کا ثواب ۴۰۰ حج کے برابر ہوگا۔ وہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو حج کی استطاعت اور جہاد لڑنے کی قوت نہ رکھتے تھے۔ یہ بات سن کر ان کا دل ٹوٹ گیا کیونکہ وہ اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی ”اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! جو شخص تم پر درود شریف بھیجے گا اس کو ۴۰۰ غزوات کا ثواب ملے گا اور ہر غزوة ۴۰۰ حج کے برابر ہوگا۔

سبحان اللہ ایک بار درود شریف پڑھنے کا ثواب ۴۰۰ غزوات کے برابر اور ہر غزوة ۴۰۰ حج کے برابر۔ چار سو کو چار سو سے ضرب دینے سے حاصل ضرب ایک لاکھ ساٹھ ہزار آیا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَادِمَاتِ الرَّحْمَةِ

فرمایا

رسول اکرم ﷺ نے

جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہئے کہ مجھ ﷺ پر بکثرت درود شریف پڑھا کرے۔

مزید فرمایا!

جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہئے کہ مجھ ﷺ پر کثرت سے درود شریف پڑھے کیونکہ درود شریف مصائب و آلام کو دور کر دیتا ہے اور روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کرتا ہے۔

(سخان اللہ)

بے سہاروں کا سہارا ہے الصلوٰۃ والسلام
ہر مشکل میں کام آتا ہے الصلوٰۃ والسلام
جو چاہتے ہو تم خدا کی رضا تو
پڑھتے رہو ہر وقت الصلوٰۃ والسلام

تخلیق: عبدالعلی عابد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ

درود شریف

اور

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ایک دفعہ چند کافر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ایک سائل (فقیر) آیا اور اس نے ان سے کچھ سوال کیا۔ انہوں نے تمسخر کے طور پر کہہ دیا۔ تم حضرت علیؑ کے پاس جاؤ وہ تمہیں کچھ دیں گے۔ سائل جب حضرت علیؑ کے پاس آیا اور ان سے کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیجئے تنگ دست ہوں۔ آپ کے پاس اس کو دینے کو بظاہر کوئی چیز نہ تھی لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے مذاق کے لئے بھیجا ہے۔ آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر سائل کی تھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی کو بند کر لو اور وہاں جا کر کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا۔ تو انہوں نے پوچھا تجھے کیا دیا ہے۔ اس نے مٹھی کھول دی تو اللہ کی رحمت سے مٹھی سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی یہ دیکھ کر کافر مسلمان ہو گیا۔ (رحمت القلوب)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَأُوفُ

درود شریف

اور

بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ

ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکرؒ درود شریف کے فضائل اور برکات بیان فرما رہے تھے تو پانچ درویش آئے اور عرض کیا۔ ہم مسافر ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں لیکن روپیہ پیسہ پاس نہیں۔ یہ سن کر بابا فرید گنج شکرؒ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجور کی چند گٹھلیاں لیں اور کچھ پڑھ کر پھونک کر ان سب مسافروں کو دے دیں۔ درویشوں نے جب باہر جا کر دیکھا تو وہ سونے کی اشرفیاں تھیں۔ بابا فرید گنج شکرؒ کے دوست حضرت شیخ بدر الدین اسحاقؒ نے بتایا کہ بابا فرید گنج شکرؒ نے کھجور کی گٹھلیوں پر درود شریف پڑھ کر پھونکا تھا جس کی برکت سے گٹھلیاں سونا بن گئیں۔ سبحان اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّابِرِينَ

درود شریف

اور

دریائے رحمت

حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
 درود شریف پڑھنے والو! یاد رکھو تم دریائے رحمت کے تیراک ہو۔
 جب اللہم صل کہا تو کرم خداوندی کے دریاؤں میں غوطہ زن
 ہوئے۔

جب علی سیدنا مولانا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

کے الفاظ زبان پر آئے تو دریائے رسالت کی موجوں میں آگئے
 جس وقت و علی الہ کہا تو اہل بیت نبی ﷺ کی بخششوں کے دریاؤں
 میں لہریں لے رہے ہو۔

اے صحرائے معصیت میں پیاسے بھٹکنے والو! کس طرح یہ بات
 سمجھ میں آئے کہ ایسے ایسے نورانی دریاؤں سے جن سے تمناؤں کی
 کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں گلشن ایمان ہرا بھرا ہو کر لہلہاتا

ہے۔ قلب اور دل و دماغ کو سرور و فرحت حاصل ہوتی ہے۔ روح ایمان کو تروتازگی ملتی ہے تم تشنہ کام نامراد پھرو۔ فوراً پڑھو۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحِيمُ

درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ (جذب القلوب)

درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے

(جذب القلوب)

درود پاک اگر دکھاوے یا ریا کے ساتھ پڑھا جائے تو بھی خداوند تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔

اللہ کی رضا بس ذکرِ رسول ہے

ذکرِ رسول کے بنا زندگی فضول ہے

ہر عبادت کا صلہ ملتا ہے کہ نہیں

ریا سے پڑھا درود بھی خدا کو قبول ہے

تخلیق:۔ عبد العلی عابد

درود شریف

اور

جمعہ کے دن کی فضیلت

کنز الاعمال میں درج ہے رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ ﷺ پر درود شریف پڑھا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایسا عظیم الشان نور ہوگا کہ اس نور کو تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو انہیں کفایت دی جائے گی۔

حضرت الدیلمی ابو ذرؓ کہتے ہیں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن مجھ ﷺ پر سو مرتبہ درود شریف بھیجا اس شخص کے سو سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

حضرت عمر بن خطابؓ سے یہ حدیث نقل ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے ﷺ اوپر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود شریف بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارا درود شریف مجھ

ﷺ پر پیش ہوتا ہے اور میں ﷺ تمہارے لئے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔

حدیث شریف ہے جمعہ کے دن جو شخص رسول اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجتا ہے تو کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو پڑھنے والے پر صلوة نہ بھیجے۔

نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو مسلمان مجھ ﷺ پر جمعہ کی رات (یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات) سو مرتبہ درود پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا حدیث شریف ہے جمعہ کے دن مجھ ﷺ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو یہ یوم مشہود ہے کیونکہ تمہارا درود شریف ختم ہونے سے پہلے مجھ ﷺ تک پہنچ جاتا ہے۔

(جامع صغیر)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

درود شریف

اور

فرشتوں کے ساتھ نماز

حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ آسمان پر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت نے سبب پوچھا کہ یہ اعزاز کیسے حاصل ہوا۔ اس شخص نے جواب دیا جب کوئی حدیث لکھنے بیٹھتا اور آقا نامدار حضور اکرم ﷺ کا نام آتا تو فوراً درود شریف لکھ لیتا تھا اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا۔

حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ ﷺ پر کثرت سے درود شریف بھیجو اس لئے کہ میری امت کا درود شریف ہر جمعہ کے دن میرے ﷺ سامنے پیش کیا جاتا ہے لہذا جو مجھ ﷺ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا وہ مجھ ﷺ سے زیادہ قریب ہوگا۔

(امام بیہقی)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِينَ

درود شریف

اور

تکلیفوں سے نجات

”حصن حصین عملیات و وظائف کی ایک لاجواب کتاب ہے اس کے مولف فرماتے ہیں۔

کہ درود شریف کے شیریں پھل بے حساب ہیں جن کو کوئی کسی بھی حالت میں گن نہیں سکتا خصوصاً تنگی اور مشکل، فکر و غیرہ کے دور ہونے اور حاجت کے بر آنے میں بارہا میں نے یہ تجربہ کیا ہے یہاں تک کہ اکثر خوف اور ہلاکت کی جگہ پھنس گیا تو ایسے نازک وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے مجھے نجات بخشی۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے درود شریف سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں۔

بزرگان دین تاکید کرتے ہیں کہ کم از کم یومیہ ایک سو مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہئے اس سے قلب منور ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ کم از کم ۳۱۳ مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا جائے کہ یہ دین اور دنیا کے لئے ایک خزانہ ہے۔

ایک چیز یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ لیکن درود شریف کے متعلق صاف صاف کہہ دیا کہ ”میں بھی سلام بھیجتا ہوں۔ ملائکہ بھی اور مومنو! تم بھی خوب درود و سلام بھیجو“ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ درود شریف پڑھنے سے ہی ہم مومن ہو جاتے ہیں۔

مومنو! پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود

ہے خدا کا یہ وظیفہ الصلوٰۃ والسلام

تخلیق: عبدالعلی عابد

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمْ يَا حَبِيبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کثرت درود شریف کا

فارمولا

حضرت علامہ شہاب خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا شریف میں فرمایا ہے کہ کثرت سے درود شریف نہ پڑھ سکے تو کم از کم ۳۱۳ مرتبہ پڑھے یہی کثرت درود شریف سمجھا جائے گا۔

مزرع الحسنات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ۳۱۳ کے عدد میں خاص تاثیر رکھی ہے جہاں یہ عدد پایا جاتا ہے فلاح و بہبود اور خیر و برکت پائی جاتی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پینچسروں میں ۳۱۳ کو رسول بنایا، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی یہی تعداد تھی جس نے ہزاروں کفار کو مار بھگایا۔

حضرت طالوت کا لشکر جس نے جالوت اور اس کے ساتھیوں کو مار بھگایا ان کی تعداد بھی ۳۱۳ تھی اس لئے ۳۱۳ بھی مسیحا عدد ہے۔

(واللہ اعلم بالصواب)

بزرگان دین تاکید کرتے ہیں کہ کم از کم ایک سو مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہئے اس سے قلب منور ہوتا ہے جب کوئی ایک سو مرتبہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ولی کامل ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ تشریف لائے تو فرمایا میں ﷺ نے آج رات عجیب منظر دیکھا کہ میرا ﷺ ایک امتی پل صراط سے گزرنے لگا۔ کبھی وہ چلتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی لٹک جاتا ہے تو اس کا مجھ ﷺ پر درود پاک پڑھا ہوا آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا اور پکڑے پکڑے اسے پار کر دیا (سعادة الدین صفحہ ۴۴)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے وقت درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے رب العالمین غفور الرحیم ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ (سعادت دارین صفحہ ۷۷)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَجُتُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

درود شریف

اور

دعا میں وقت

ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں دعا میں آپ ﷺ کے لئے کتنا وقت درود شریف کے واسطے مقرر کروں۔

آپ ﷺ نے فرمایا، جو تم چاہو عرض کیا ”چوتھائی فرمایا ﷺ اگر زیادہ کرو تو بہتری ہے میں نے پھر عرض کیا کہ آدھا مقرر کروں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ زیادہ کرو تو بہتر ہے میں نے عرض کیا ساری دعا میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں یعنی کل وقت درود شریف کے لئے وقف کروں۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اگر ایسے کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری دنیا اور آخرت میں کام آئے گا اور تیرے سارے گناہ بخش دے گا یعنی تیری حاجتیں پوری ہوں گی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الظَّاهِرِينَ

درود شریف

اور

ابو سلیمان کا فلسفہ

حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی چاہے کہ اس کی حاجتیں پوری ہوں تو دعائیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ دعایا حاجت مانگنے سے پہلے درود پڑھے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ درود شریف کو فوراً قبول کرتا ہے اور جب اول اور آخر میں درود شریف ہے جس کو قبول فرمائے گا تو بیچ کا حصہ یعنی حاجت کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔

اس طرح انشاء اللہ کام ہو جائے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ دعا آسماں اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے اوپر نہیں چڑھتی یہاں تک کہ حضور اکرم ﷺ پر درود پڑھا جائے۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللَّهُ

درود شریف

اور

قبولیت کی کنجی

رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ نہ ہو مگر جب کوئی شخص مجھ ﷺ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اس درود شریف کی برکت سے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور دعا درود شریف کے ہمراہ بارگاہ الہی میں درجہ قبولیت پر پہنچتی ہے اور اگر کوئی شخص دعائے مانگنے کے ساتھ مجھ ﷺ پر درود شریف نہیں بھیجتا تو اس کی دعا الٹی پھر آتی ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَوْبَارِكُ وَسَلَّمَ

درود شریف

اور

قیامت کے دن انعام

کتاب زاہد الواعظین میں ہے کہ قیامت کے روز ایک ایسی جماعت ہوگی کہ جن کے سر چاند کی طرح روشن ہوں گے اور ان کے بال سچے موتیوں سے لبریز ہوں گے اور نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، اہل جنت کہیں گے کہ یہ فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی فرشتے ہیں۔ صرف اتنا علم ہے کہ ہم حضرت محمد ﷺ کے امتی ہیں۔

فرشتے حیران ہو کر کہیں گے یہ مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟ وہ کہیں گے کہ پانچ وقت نماز ہم نے آداب اور سنتوں کے ساتھ باجماعت پڑھی اور اس کے ساتھ حضرت محمد ﷺ کا نام مبارک آتا تھا، تب آپ ﷺ کی محبت اور عشق کے باعث دل سے درود و سلام پڑھتے تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الصَّادِقِينَ

پانچ فرشتے

مجالس الابرار میں ہے کہ انسان کے ساتھ پانچ فرشتے رہتے ہیں۔

(۱) ایک سیدھی جانب کو نیکیاں لکھتا ہے۔

(۲) دوسرا بائیں جانب جو بدیاں لکھتا ہے۔

(۳) تیسرا آگے رہتا ہے جو نیکیوں کی تلقین کرتا ہے۔

(۴) چوتھا پیچھے رہتا ہے جو بلاؤں کو دور کرتا ہے۔

(۵) پانچواں پیشانی پر رہتا ہے جو درود شریف لکھتا ہے اور حضور اکرم ﷺ کو پہنچاتا ہے۔

تاج الوطائف

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ مجھ ﷺ پر زیادہ سے زیادہ

درود شریف پڑھا کرو اس لئے کہ تمہارے لئے یہ فلاح کا ذریعہ ہے

اس لئے درود شریف کو تاج الوطائف بھی کہتے ہیں۔

یعنی سب سے بڑا وظیفہ اور سب وظیفوں کا سردار

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

درود شریف اور صدقہ و خیرات

حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈ نہیں کرتی جتنا صدقہ۔

لیکن اگر صدقہ دینے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرنا چاہئے؟
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کے پاس صدقہ دینے کے لئے کوئی چیز نہ ہو تو وہ اپنی دعائیں یہ درود شریف پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَيَّ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ط

یہ کتنا آسان اور بیش بہا نسخہ ہے جس کی بدولت دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ درود شریف بھی ہو گیا اور صدقہ بھی ہو گیا۔

حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کیلئے درود شریف سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔

درود شریف

اور

دنیا میں جنت کی بشارت

حضرت خالد ابن کثیر کا جب وقت وفات قریب آیا تو لوگوں نے ان کے سرہانے ایک پرچہ کاغذ پر یہ مضمون لکھا ہوا پایا۔

بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ لِيخَالِدَ بِنِ كَثِيرٍ

یعنی خالد بن کثیر کو دوزخ سے نجات ہے۔ اس کاغذ کے پرچہ کو دیکھتے ہی لوگوں کو بڑا تعجب ہوا سب کے سب فوراً ان کے گھر والوں کے پاس جمع ہو کر اس کا سبب دریافت کرنے لگے۔ ہر ایک حیران تھا اور ہر ایک یہ راز جاننے کے لئے بے قرار تھا گھر والوں سے معلوم ہوا کہ خالد بن کثیر ہر جمعہ کو حضور اکرم ﷺ پر دس ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے ان کا معمول تھا کہ رات کو دس ہزار مرتبہ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَي آلِهِ وَسَلَّمَ پڑھ کر ادب اور اخلاص سے یہ تحفہ حضور اکرم ﷺ کو بھیجتے

تھے سبحان اللہ اس درود شریف کو حضور اکرم ﷺ پر بھیجنے کا انعام
ان کو دنیا میں مل گیا آخرت تو آگے ہے۔ جس میں جو انعام ملتے ہیں
ان کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ (معراج المومنین)

اس فانی دنیا میں ایسے بھی خدار سیدہ بزرگ ہیں کہ وہ جب نماز
میں التحیات پڑھنے بیٹھتے ہیں اور ”السلام عليك ايها النبي“ کہتے
ہیں تو آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی جانب سے
اس کا باقاعدہ جواب ”وعليكم السلام ورحمته الله وبركاته“
سنتے ہیں۔ یہ سب درود شریف کی برکت ہے۔

جو چاہتا ہے شفاعتِ رسول وہ درود پڑھے
جسے درکار ہو رب کی رضا وہ درود پڑھے
دین و دنیا میں کوئی بھی نہ کام آئے گا
جس نے خود کو بخشانا ہو وہ درود پڑھے

تخلیق:۔ عبد العلی عابد

صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

درود شریف

اور

ستر ہزار نیکیاں ستر ہزار دن

مزرع الحسنات میں درج ہے کہ اگر کوئی شخص اس درود شریف کو پڑھے تو ستر ہزار فرشتے ستر ہزار روز تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ (سبحان اللہ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا
تُحِبُّ وَتَرْضَاهُ لَهُ

”الہی حضور آقا محمد ﷺ اور حضرت محمد ﷺ کی آل اولاد پر

درود بھیج جو تیرا محبوب اور پسندیدہ ہے۔“

عبدل میرے گناہوں کو بخشے وہ کریم

محشر میں رٹ لگاؤں گا جب میں درود کی

حضرت عبدالرحمن صدیقی صاحب اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں کہ

خصوصیت کے ساتھ طالب علموں کو روزانہ ایک سو مرتبہ کم از کم

درود شریف ضرور پڑھنا چاہئے اس سے قلب منور ہوتا ہے۔

اس ناچیز کا بھی یہ اعلان ہے کہ واقعی جلد از جلد قلب کو منور کرنے والی اگر کوئی چیز لا جواب دیکھی تو وہ درود شریف ہے اسی لئے درود شریف کو تاج الوطائف کہتے ہیں۔

سیدنا ابو کاہل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اے ابو کاہل جو شخص مجھ ﷺ پر ہر دن اور ہر رات کو تین تین مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس آدمی کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔

رسول پاک کی جو قربت کا طلب گار ہو
خدا کی ذات کی رسائی جسے درکار ہو
درود و سلام ورد کرے ہر پل ہر وقت وہ
نہیں تو زندگی و بندگی ان کی بے کار ہو

تخلیق:۔ عبدالعلی عابد

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَمْسَ الصُّحَىٰ

درود شریف

اور

خدا کا سلام

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لے گئے حتیٰ کہ کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے اور آپ ﷺ نے سجدہ کیا بہت دراز کیا یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وفات دے دی ہے عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ جبرئیل امین نے مجھ ﷺ سے عرض کیا آپ ﷺ اس چیز کی خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی آپ ﷺ پر درود بھیجے تو میں اس آدمی پر رحمت نازل کروں گا اور جو آپ ﷺ پر سلام بھیجے تو میں خود اس پر سلام بھیجوں گا۔ (مشکوٰۃ شریف)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

درود شریف

اور حضرت جبرئیل علیہ السلام

کیسے اور کیوں پیدا ہوئے

ایک روز حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا دس ہزار سال تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ میں کس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہوں اور میں کیا کروں گا؟ دس ہزار برس کے بعد ندا آئی کہ اے جبرئیل علیہ السلام تب مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام جبرئیل ہے میں نے فوراً جواب میں عرض کیا ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ“ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میری تقدیس و پاکی بیان کرو میں نے دس ہزار برس یہ کیا۔ پھر حکم ہوا میری بزرگی بیان کرو دس ہزار برس تک بزرگی بیان کرتا رہا اس کے بعد مجھ پر انوار عرش ظاہر ہوئے عرش پر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

لکھا ہوا دیکھا میں نے دریافت کیا اے باری تعالیٰ محمد ﷺ کون ہیں؟ ارشاد ہوا اے جبرئیل علیہ السلام اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تجھ کو پیدا نہ کرتا بلکہ نہ جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ، نہ چاند، نہ ستارے نہ سورج۔ اے جبرئیل علیہ السلام محمد ﷺ پر درود شریف پڑھو چنانچہ دس ہزار سال تک میں حضور اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھتا رہا۔ (اب راز ظاہر ہوا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کس کام کے لئے پیدا کئے گئے تھے)

فرمان نبوی ﷺ ہے جب تک کوئی مسلمان اپنے ماں باپ بہن بھائی اولاد اور دولت میں سب سے زیادہ مجھ ﷺ سے پیار محبت نہ کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔

محمد ﷺ کی محبت دینِ حق کی شرطِ اول ہے
 اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

درود شریف

اور

مشرق اور مغرب کا فرشتہ

دلائل الخیرات میں ایک نہایت لاجواب حقیقت درج ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے میرے ﷺ اوپر بسبب تعظیم درود شریف بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک ایسا فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور پاؤں ساتوں زمین کے درمیان میں ہوتے ہیں اور گردن اس کی عرش پر لگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے اے فرشتے درود بھیج اس بندے کے اوپر جس نے درود شریف بھیجا تعظیم کے لئے میرے نبی ﷺ پر پس وہ فرشتہ قیامت تک اس آدمی پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ (سبحان اللہ)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهِ

درود شریف

اور

تخفے ہی تخفے

درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے تین انمول تخفے عطا ہوتے ہیں۔

(۱) رحمت الہی (۲) فضل و کرم الہی (۳) شفقت الہی

اسی طرح دربار رسالت ﷺ سے بھی درود شریف کے پڑھنے والے کو تین تخفے ملتے ہیں۔

(۱) سلامتی (۲) شفا (۳) مغفرت

اسی طرح فرشتوں سے بھی درود شریف پڑھنے والے کو تین تخفے ملتے ہیں۔

(۱) رحمت (۲) سلام (۳) حفاظت

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

(اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَآزْوَاجِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ

تین اور تحفے

(۱) درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو اس کے ساتھ نور ہوگا۔

(۲) درود شریف پڑھنے والے کے گناہ تین دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔

(۳) روز محشر حضور اکرم ﷺ کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ بڑے ظلم و جفا کی بات ہے کہ کسی کے سامنے میرا ﷺ ذکر ہو اور وہ مجھ ﷺ پر درود نہ پڑھے۔

درودِ پاکِ پاکِ کلامِ ہے
پاکِ لوگ ہی پڑھ دے نے
بغضِ نبیِ نالِ رکھنِ والے
دوزخِ وچِ سڑ دے نے

تخلیق: . عبد العلی عابد

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَدْرُ الدُّجَى

marfat.com

Marfat.com

درود شریف

اور

مجبور کو کھانا ملا

کتاب مصباح الظلام میں ہے کہ حضرت ابو حفص حداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا۔ بھوک سخت لگی ہوئی تھی۔ یونہی پندرہ دن گزر گئے۔ جب میں زیادہ ہی ٹڈھال ہو گیا تو میں نے اپنا پیٹ روضہ مقدسہ کے ساتھ لگا دیا اور کثرت سے درود شریف پڑھا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اپنے مہمان کو کچھ کھانا کھلائیے۔ بھوک نے ٹڈھال کر دیا ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند غالب کر دی اور سرکار دو عالم ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے دائیں اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بائیں جانب ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے ہیں۔

مجھے حضرت علی شیر خدار رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا سرکار دو

عالم ﷺ تشریف لائیں ہیں میں اٹھا اور دست بوسی کی آقائے دو
 جہاں ﷺ نے مجھے روٹی عنایت فرمائی۔ میں نے آدھی روٹی کھالی
 اور آنکھ کھل گئی۔ میں بیدار ہوا۔ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں
 تھی۔ (سعادة دارین)

درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔
 مشائخ کرام فرماتے ہیں اور اس ناچیز کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ اگر مرید کو
 پیر کامل نہ مل سکے تو درود شریف کی کثرت کرے یہ خدا تک جلد از جلد
 پہنچنے کا ذریعہ ہے۔

سب عملوں سے اللہ کو پیارا ہے بس درود پاک
 ہر مسلمان کو اللہ سے ملاتا ہے بس درود پاک
 جس کو کوئی پیر نہ مل سکا ہو دنیا میں
 اس کا پیر کامل ہے بس درود پاک

تخلیق: . عبد العلی عابد

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينُ

درود شریف

اور

شہد کی مکھی

ایک دن آقائے دو جہاں ﷺ اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لئے تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور حکم دیا یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو!

جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بھنھناتی ہے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے آپ ﷺ نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ کھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتہ لگایا ہوا ہے وہ کون لائے؟ کیونکہ ہم تو لا نہیں سکتیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا ”پیارے علی رضی اللہ عنہ اس مکھی کے پیچھے

جاؤ اور شہد لے آؤ۔“ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک چوبی پیالہ
 پکڑ کر اس کے پیچھے ہوئے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور
 آپ نے وہاں جا کر شہد صاف مصفا نچوڑ لیا اور دربار رسالت ﷺ میں
 حاضر ہو گئے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے وہ شہد تقسیم فرما دیا جب صحابہ
 کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آگئی اور بھیننا شروع کر دیا۔

صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مکھی پھر اسی طرح شور
 کر رہی ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ﷺ نے اس سے ایک سوال کیا
 ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے میں ﷺ نے اس سے پوچھا ہے کہ
 تمہاری خوراک کیا ہے مکھی کہتی ہے پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول
 ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہیں۔

میں ﷺ نے پوچھا پھول تو کڑوے ہوتے ہیں پھیکے بھی۔ بد مزہ
 بھی ہوتے ہیں۔ تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد
 کیسے بن جاتا ہے تو مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارا ایک امیر
 اور سردار ہے جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ ﷺ
 کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے

ساتھ مل کر درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا
 رس درود شریف کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور درود شریف کی
 برکت و رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔

اگر درود شریف کی برکت سے کڑوے اور بد مزہ پھولوں کا رس
 نہایت میٹھا شہد بن سکتا ہے۔ تلخی شیرینی میں بدل سکتی ہے تو درود
 شریف کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔

(مقاصد السالکین صفحہ ۵۳)

(۱) ہر خزانے کی چابی ہوتی ہے روحانی خزانے کی چابی درود شریف
 ہے۔

(۲) درود شریف ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں۔

(۳) درود شریف کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا
 ذریعہ ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

درود شریف

اور

جان کنی میں آسانی

امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا لیکن اسے درود شریف سے بڑی محبت تھی کسی وقت بھی درود شریف سے غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا اور جان کنی کی حالت طاری ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔

حتیٰ کہ جو دیکھتا ڈر جاتا اس آدمی نے جان کنی کی حالت میں ہی ندا دی اے اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ میں آپ ﷺ سے محبت رکھتا ہوں اور درود شریف کی کثرت کرتا ہوں۔

ابھی اس نے یہ ندا پوری بھی نہ کی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے اپنا پر اس آدمی کے چہرے پر پھیر دیا فوراً اس کا چہرہ چمک اٹھا اور کستوری کی سی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا

دنیا سے رخصت ہو گیا۔

پھر جب رات ہوئی تو کسی نے دیکھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
(درۃ الناصحین صفحہ ۲۷۲)

”جس مسلمان کے لئے بات خوشی کا باعث ہو کہ ”روز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ سے خوشی کے ساتھ ملاقات کرے تو وہ مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھے۔“

بَلِّغِ الْعُلَى بِكَمَالِهِ
كَشَفِ الدُّجَى بِجَمَالِهِ
حَسَّنْتَ جَمِيعَ خِصَالِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

درود شریف

اور

گناہ گار کی توبہ

حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا ایک ہمسایہ تھا جو بادشاہ کا ملازم تھا جو فسق و فجور اور غفلت میں مشہور تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا سید دو عالم ﷺ کے دست مبارک میں اس نے ہاتھ دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ یہ بد کردار بندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرے ہوئے ہے تو اس آدمی نے اپنا ہاتھ سرکار دو عالم ﷺ کے مبارک ہاتھ میں کیسے رکھ دیا ہے تو میرے آقا رحمت دو عالم ﷺ نے فرمایا میں ﷺ اس کی حالت کو جانتا ہوں اور میں ﷺ اسے دربار الہی میں لے جا رہا ہوں اور اس کے لئے دربار الہی میں شفاعت کروں گا۔ میں نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کس سبب سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا اور کس وجہ سے سرکار دو عالم ﷺ کی اتنی

زیادہ نظر عنایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا یہ سب کچھ اس کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ ﷺ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ غفور و رحیم میری ﷺ شفاعت کو قبول فرمائے گا پھر میں بیدار ہوا اور جب صبح ہوئی تو دیکھا وہی شخص مسجد میں داخل ہوا وہ رو رہا تھا اور میں اس وقت رات والا واقعہ دوستوں اور نمازیوں کو سن رہا تھا۔

وہ آیا اور سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھ سے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لوں کیونکہ مجھے رسول اکرم ﷺ نے بھیجا ہے کہ عبد الواحد کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لو۔ پھر میں نے اس سے رات والے خواب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا رات سرکارِ دو عالم ﷺ تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میں ﷺ تیرے لئے اپنے رب کریم کے دربارِ شفاعت کرتا ہوں کیونکہ تو مجھ ﷺ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے اور مجھے دیدارِ الہی میں لے جا کر شفاعت کر دی اور فرمایا ﷺ پچھلے گناہ

معاف کروادئے ہیں اور آئندہ کے لئے صبح جا کر شیخ عبدالواحد کے ہاتھ پر توبہ کر لیں اور اس توبہ پر قائم رہو اور نیک اعمال کرو۔

(سعادة الدارين)

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جو شخص مجھ ﷺ پر درود پڑھتا ہے

اللہ اس کے دل کو نفاق سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسا کہ پانی کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے۔ (جذب القلوب صفحہ نمبر ۲۵۱)

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ

رسول اکرم ﷺ کو فرماتے سنا ہے جو مجھ ﷺ پر درود پاک پڑھے۔

میں ﷺ اس کا شفیع ہوں گا۔ (القول البدیع)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ

درود شریف

اور

روضہ مقدس صلی اللہ علیہ وسلم

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستر ہزار فرشتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آجاتے ہیں اور درود شریف بھیجتے رہتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں اور دوسرا گروہ وہ بھی ستر ہزار ہوتے ہیں آجاتے ہیں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔

جس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے نکلیں گے اس وقت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔

دیدارِ مصطفیٰ چاہتے ہو تو درود پڑھو
جو ہو مدینہ کی تمنا تو درود پڑھو
خدا بھی پڑھتا ہے فرشتے بھی پڑھتے ہیں
مومنو! تم بھی دل لگا کے خوب درود پڑھو

تخلیق: عبد العلی عابد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَزْهَدِينَ

درود شریف

اور

”جنت کا راستہ کھونا“

حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”جو مجھ ﷺ پر درود شریف بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھودیا۔“

(مکاشفہ القلوب)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو خدا طاقت دے تو میں نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنے پر ہی اپنی قل عبادت کر لوں۔

نبی پاک ﷺ نے فرمایا مجھ ﷺ پر درود بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم يَا رَسُولَ اللّٰهِ

درود شریف

اور

چھوٹا کام۔ بڑا انعام

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم شافع محشر حضرت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص خلوص دل سے دن میں ایک مرتبہ مجھ ﷺ پر درود شریف پڑھے گا تو جنت کی بشارت ملنے سے قبل نہیں مرے گا۔ (کنز العمال عن انس)

مدینہ منورہ میں ملک عرب کا سب سے بڑا پہاڑ ہے جس کو جبل احد کہتے ہیں یہ بہت بڑا پہاڑ ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس میرا ﷺ ذکر کیا جائے اور وہ مجھ ﷺ پر درود شریف پڑھے تو اس شخص کے لئے ایک قیراط کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور وہ قیراط احد پہاڑ کے مطابق ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے کہ صرف ایک درود شریف پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

درود شریف اور قطعہ جنتی شخص

جو شخص رات کو تہجد کے وقت چپکے سے اٹھے۔ وضو کرے۔
نماز پڑھے۔ اللہ کی حمد کرے اور بعد میں نبی کریم ﷺ پر درود
شریف بھیجے۔

توانشاء اللہ

وہ قطعہ جنتی شخص ہے۔

جو طلب گار ہو جنت کا وہ درود پڑھے
جسے مطلوب ہو رضائے حق وہ درود پڑھے
ہر مشکل میں جو کام آتا ہے وہ ہے ذکرِ رسول
جسے خدا کو پانا ہو وہ درود پڑھے

تخلیق:۔ عبد العلی عابد

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ الْهُدَى

درود شریف

اور

برکت و فضیلت

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے جلالی بزرگ ہوئے ہیں۔ بسا اوقات آپ کوئی برائی دیکھتے اور اسے روک نہ سکتے تو آپ کو اس قدر جلال آجاتا کہ آپ کے پیشاب میں خون آنے لگتا۔ یہ واقعہ انہی سے منسوب ہے۔

مکاشفۃ القلوب میں ہے جناب محمد بن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایسے نوجوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں۔ میں نے کہا! اے نوجوان! تم تسبیح و تہلیل چھوڑ کر صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جوان نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا سفیان ثوری! اس نے کہا آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے

انیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حج کے ارادہ سے نکلا۔ راستے میں ایک جگہ میرا باپ سخت بیمار ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اسے موت سے نہ بچا سکا۔ موت کے بعد میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا۔ اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھ بوجھل ہو گئی۔ اور مجھے نیند آگئی۔ خواب میں میں نے ایک ایسے حسین کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا۔ اس کا لباس نفاست کا آئینہ دار تھا اور اس کے وجود مسعود سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں وہ نازک خرامی کے ساتھ آیا اور میرے باپ کے چہرہ سے کپڑا اٹھا کر چہرہ کی طرف اشارہ کیا تو میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس تشریف لے جانے لگا تو میں نے دامن تھام کر عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طفیل اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی آبرور کھ لی۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن۔ اللہ کا نبی محمد بن عبد اللہ ﷺ ہوں۔ تیرا باپ اگرچہ بہت گناہ گار تھا مگر مجھ ﷺ پر

کثرت سے درود شریف بھیجتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی اور میں صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کا جو مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجتا ہے فریاد رس ہوں۔ جو ان نے کہا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔

یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہی کی وجہ سے ہوا۔ یہ ہے برکت و فضیلت و عظمت درود شریف

درود پاک فتوحات کی چابی ہے درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا رافع ہے۔

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ”بے شک اللہ تعالیٰ نظر کرم کرتا ہے اس شخص پر جو مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور جس شخص پر اللہ نظر کر دے اسے عذاب نہیں دے گا۔ (افضل الصلوات صفحہ نمبر ۴۰)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَعَلَىٰ اٰلِكَ
يَا حَبِيبَ اللّٰهِ

درود شریف

اور

قرض دار

ایک شخص کے ذمہ پانچ سو درہم کا قرضہ تھا مگر حالات ایسے تھے کہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ایک رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی پریشانی عرض کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ابوالحسن کیسانی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ تمہیں پانچ سو درہم دے دے۔ وہ نیشاپور میں ایک سخی مرد ہے۔ ہر سال دس ہزار غریبوں کو کپڑے دیتا ہے۔ وہ اگر تم سے کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا۔ تم ہر روز دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ۱۰۰ بار درود شریف کا تحفہ پیش کرتے ہو مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔

وہ شخص بیدار ہوا اور ابوالحسن کیسانی کے پاس پہنچ گیا۔ اور اپنا حال بزار بیان کیا۔ ساتھ ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی سنایا تو

ابو الحسن سنتے ہی وجد میں آگئے اور تخت سے اتر کر دربار الہی میں
سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر کہا۔ اے بھائی! یہ میرے اور اللہ کے درمیان
ایک راز تھا دوسرا کوئی اس راز سے واقف نہ تھا واقعی کل میں درود
شریف پڑھنے سے محروم رہا۔

پھر ابو الحسن نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو ۵۰۰ کی بجائے دو
ہزار پانچ سو درہم دے دو۔ اے بھائی! ۵۰۰ درہم حضور اکرم ﷺ
کے حکم کی تعمیل میں پیش کرتا ہوں۔ ایک ہزار درہم مدنی آقا ﷺ
کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ اور ایک ہزار درہم
آپ کے یہاں قدم رنجہ فرمانے کا نذرانہ ہے مزید کہا اگر آپ کو
آئندہ جب کبھی بھی کوئی ضرورت پیش ہو میرے پاس ضرور
تشریف لائیں۔ رسول اللہ ﷺ کی مدد نے اس امتی کی مصیبت حل کر
دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ درود پاک ہر امتی کی حاجت روائی کرتا ہے۔
(معارج النبوة، صفحہ نمبر 329 جلد اول)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ

درود شریف

اور

عاشق رسول

شہر بلخ میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ سوداگر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ترکہ میں مال و زر کے علاوہ حضور اکرم ﷺ کے تین موئے مبارک بھی چھوڑے۔ دونوں بیٹوں میں ترکہ تقسیم ہوا۔ دنیاوی مال آدھا آدھا بانٹ لیا۔ مگر موئے مبارک کی تقسیم میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان کو کیسے تقسیم کریں۔ چنانچہ بڑے لڑکے نے یہ تجویز پیش کی کہ دونوں ایک ایک بال کورکھ لیں اور بقیہ ایک کو قطع کر کے آدھا آدھا بانٹ لیا جائے۔ چھوٹا لڑکا جو نہایت عاشق رسول تھا یہ تجویز سن کر کانپ گیا اور اس نے کہا۔ میں ہرگز ہرگز ایسی بے ادبی کی جرأت نہیں کر سکتا۔ میرا دل سرکارِ مدینہ ﷺ کے بال مبارک کو دو حصے کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے بگڑ کر کہا۔ تجھے بالوں کی عظمت کا اتنا ہی

احساس ہے تو یوں کر کہ تینوں بال تور کھ لے اور سارا مال و دولت مجھے دے دے۔ چھوٹے بھائی نے اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے تینوں مقدس بال لے کر سارا مال بخوشی بڑے بھائی کے حوالے کر دیا۔

اب چھوٹے بھائی نے اپنا یہ معمول بنالیا کہ تینوں مبارک بالوں کو سامنے رکھ کر سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کے پھول پیش کرتا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مختصر سے کاروبار میں اتنی ترقی عطا فرمائی اور وہ مالدار ہو گیا۔ دوسری طرف بڑے بھائی کو دنیاوی مال میں خسارے پر خسارہ آنے لگا۔ حتیٰ کہ وہ کنگال ہو گیا۔ دریں اثنا چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا کسی نیک آدمی نے اس چھوٹے بھائی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلو میں بٹھار کھا ہے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔

جاؤ لوگوں سے کہہ دو۔ اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو

میرے اس عاشق کی قبر کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کرے گا۔

اس نیک آدمی نے اپنا خواب لوگوں پر ظاہر کیا اور سرکار

مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ پھر کیا تھا لوگ نہایت ادب و تکریم کے ساتھ جوق در جوق اس عاشق رسول کے مزار پر نور کی زیارت کو آنے لگے۔ صاحب مزار! کی برکتوں سے لوگوں کے معاملات حل ہونے لگے۔ لوگ اس مزار کا کافی ادب کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سوار مزار شریف کے پاس سے گزرتا تو ادباً سواری سے نیچے اتر آتا۔

عزتِ دو جہاں دلائے گا درودِ پاک
قبر میں ساتھ نبھائے گا درودِ پاک
مشکلِ حشر جب نہ حل ہوتی ہوگی
جنت میں محل بنائے گا درودِ پاک

تخلیق: . عبد العلی عابد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَأَزْوَاجِهِ وَسَلِّمْ

درود شریف

اور

تریاق مجرب

نزہت المجالس میں لکھا ہے کہ بعض علماء میں سے ایک صاحب نے عارف باللہ حضرت شیخ شہاب الدین ابرسلان (جو بڑے زاہد و عالم تھے) کو دیکھا اور ان سے اپنے مرض اور تکالیف کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا تریاق مجرب سے کہاں غافل ہو۔ یہ درود شریف پڑھو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ رُوحَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ وَ
 صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ وَ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ وَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قَبْرِ
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ

معلوم ہوا کہ درود شریف ایک ایسا علاج ہے۔ جو لاعلاج

مریضوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے ﷺ اوپر درود

شریف نہ پڑھا اس کا کوئی دین نہیں۔ (کشف الغمہ صفحہ نمبر ۲۷۲)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَا شَفِيعَ الْأُمَّمِ

درود شریف

اور

مشکل میں مدد

بعض صلحاء سے منقول ہے کہ ایک مرد صالح پر تین ہزار دینار کا قرض ہو گیا۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا قاضی نے مہینہ بھر کی مہلت دے دی۔ وہ غریب بڑا پریشان تھا عدالت سے لوٹ کر اللہ کے حضور گہرہ وزاری کی اور سرکارِ دو عالم ﷺ پر درودوں کی کثرت شروع کر دی۔ چھبیس دن اسی طرح گزر گئے۔ ستائیسویں رات خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا قرض ادا کر دے گا تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے قرض کی ادائیگی میں تین ہزار دینار ادا کر دے۔ وہ مرد صالح کہتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے وجود کے اندر کافی خوشحالی کے ایثار پائے مگر دل میں یہ بات آئی کہ اگر وزیر صاحب

نے مجھ پر اعتماد نہ کیا تو دلیل کیا دوں گا؟ اسی وجہ سے میں وزیر کے پاس نہ جاسکا۔ دوسری رات پھر قسمت جاگ اٹھی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وزیر کے پاس نہ جانے کا سبب دریافت کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اپنی صداقت کی کیا دلیل پیش کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس بات کو پسند فرمایا اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وزیر دلیل مانگے تو کہہ دینا تم روزانہ بعد از نماز صبح پانچ ہزار درود شریف کا نذرانہ بھیجتے ہو پھر اس کے بعد کسی سے بات چیت کرتے ہو اور تمہارے اس عمل کو سوائے اللہ تعالیٰ اور کراما کاتبین کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مرد صالح کہتے ہیں جب میں وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس گیا اور اس کو اپنا خواب سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ دلیل بھی سنائی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اور کہا ”مر جبار رسول اللہ حقا“ پھر اس نے تین ہزار دینار مجھے دے کر کہا جاؤ اس سے اپنا قرض ادا کرو۔ تین ہزار دینار مزید اخراجات کے لئے اور تین ہزار دینار کاروبار شروع کرنے کے لئے دیئے اور مجھے قسم دی کہ مجھ سے دوستی کا

تعلق نہ توڑنا اور جب کبھی کوئی حاجت ہو بلا تکلف میرے پاس آجانا۔ چنانچہ میں تین ہزار دینار لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا تاکہ قرض خواہ کو قرض ادا کر دوں۔ قرض خواہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی رقم کہاں سے آئی میں نے سارا ماجرا قاضی کے سامنے بیان کر دیا۔ قاضی نے کہا کہ سارا ثواب وزیر علی بن عیسیٰ ہی کیوں لے جائے۔ قرض کی رقم میں خود اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں۔ قرض خواہ نے کہا کہ واہ! یہ نعمت میں کیوں چھوڑوں۔ میں نے اپنا سارا قرض معاف کر دیا۔ قاضی نے جو رقم دینے کا وعدہ کیا وہ بھی مرد صالح کو دے دی اور میں اس تمام مال (بارہ ہزار دینار) کو لے کر اپنے گھر آیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ سب کچھ کثرت درود شریف کی برکت اور رسول اکرم ﷺ کی مدد سے ہوا۔

(جذب القلوب، صفحہ نمبر 263)

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

درود شریف

اور

حضرت موسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نبی کریم ﷺ کے علاوہ سب سے زیادہ جلیل القدر نبی تھے۔ جبرئیل امین بھی حضور اکرم ﷺ کے علاوہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔

حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ جو تورات کے بہت بڑے عالم ہیں فرماتے ہیں کہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ موسیٰ اگر اس دنیا میں اس لئے لوگ نہ بستے ہوں جو اپنے خدا کی حمد کریں اور ثناء کریں تو آسمان سے ایک قطرہ پانی نہ پڑتا اور زمین سے ایک دانہ نہ اگاؤں۔

اسی طرح اور بہت سی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں جتنا تیری زبان سے تیرا کلام

ہے۔ بدن سے روح، آنکھ سے روشنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ۔ ضرور، ضرور، ضرور۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ

ﷺ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔

پتہ پتہ بوٹا بوٹا ذکر نبی دا کر دے نے
جن و انسان فرشتے بھی سارے درود و سلام پڑھ دے نے
نبی پیغمبر اولیاء اللہ ذکر رسول دا کر دے نے
قل کائنات وی ہر شے دیکھو درود و سلام پڑھ دے نے

تخلیق: . عبد العلی عابد

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَىٰ اٰلِكَ

وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

درود شریف کے ایک

لفظ کے بدلے جنت

حضرت عبداللہ بن قدار رحمۃ اللہ عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک کاتب میرا ہمسایہ تھا جو ایک دن انتقال کر گیا۔ میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا اے دوست اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وہ بولا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور ایسے ایسے انعامات و اکرام دیئے ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ ہی دماغ نہ سوچا۔

عبید اللہ بن قدار نے کہا ”کون سا عمل تھا جس کے بدلے میں تو بخشا گیا“ کاتب نے کہا میرا معمول تھا کہ کتابت کرتے وقت جہاں کہیں بھی رسول اللہ ﷺ کا نام نامی آتا تو میں آپ ﷺ کے نام کے ساتھ ﷺ ضرور لکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس احترام اور درود شریف کے بدلے میں یہ انعامات دیئے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ شَفِيعِ الْمُنِيبِينَ

درود شریف

اور

حوض کوثر پر بازیابی

علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

من صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسده فی
الاجساد وعلی قبره فی القبور

جو شخص یہ درود روح محمد ﷺ پر ارواح میں اور آپ ﷺ کے

جسد اطہر پر بدنوں میں اور آپ ﷺ کی قبر مبارک پر درود شریف

بھیجے گا وہ حضور اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھے گا۔ اسی طرح دیکھے گا

جس طرح قیامت میں دیکھے گا۔ حضور اکرم ﷺ اس کی سفارش

فرمائیں گے اور آپ ﷺ کے حوض کوثر سے پانی پئے گا اور اللہ

تعالیٰ اس شخص کے بدن کو دوزخ پر حرام فرمادے گا۔

اللہ نے کر دی حرام آتش دوزخ

جس کے ہو دل پہ لکھا نام محمد ﷺ

الْبَصْلُوَّةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ اللَّهِ

دور اور نزدیک ہر مقام سے

نبی پاک ﷺ درود شریف

خود سنتے ہیں

دلائل الخیرات کے صفحہ نمبر ۷۶ پر یہ حدیث درج ہے۔

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ صَلَاةَ الْمُصَلِّينَ
عَلَيْكَ مِمَّنْ غَابَ عَنْكَ وَمَنْ يَأْتِي بِعَدَاةٍ وَمَلْحَا
لَهُمَا عِنْدَكَ فَقَالَ أَسْمَعُ صَلَاةَ أَهْلِ مُحَبَّتِي
وَأَعْرِفُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ غَيْرِهِمْ عَرَضًا.

رسول اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کہ آپ ﷺ سے دور

رہنے والوں اور بعد میں آنے والوں کے درودوں کا

آپ ﷺ کے نزدیک کیا خیال ہے؟ آپ ﷺ نے

فرمایا ”ہم ﷺ محبت والوں کا درود تو خود سنتے ہیں اور ان

کو پہچانتے بھی ہیں اور غیر محبت والوں کا درود ہم ﷺ پر

پہنچایا جاتا ہے۔“

سبحان اللہ! اس حدیث سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ جو لوگ غیر محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں ان کا درود شریف فرشتوں کے ذریعے نبی پاک ﷺ تک پہنچایا جاتا ہے مگر جو لوگ محبت، چاہت، خلوص دل اور عقیدت سے درود شریف پڑھتے ہیں وہ دور نزدیک جہاں بھی ہوں ان کا درود شریف نبی پاک ﷺ خود سنتے ہیں۔ اور ان امتیوں کو پہچانتے بھی ہیں۔

کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے۔

ہم یہاں سے پکاریں آقا ﷺ خود مدینے سنیں
مصطفیٰ ﷺ کی سماعت پہ لاکھوں سلام

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جن اوقات میں درود شریف

نہیں پڑھنا چاہئے

حضور اقدس ﷺ پر ہر لمحہ، ہر وقت، درود شریف کثرت سے پڑھنا باعث نجات اور پاکی ہے لیکن چند اوقات اور حالات میں درود شریف نہ پڑھیں۔

سات اوقات ایسے ہیں جن میں حضور اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنا مکروہ ہے۔ ان کا خیال رکھا جائے۔

(۱) پیشاب، پاخانہ کے وقت۔

(۲) مباشرت کے وقت۔

(۳) ٹھوکر کھاتے وقت۔

(۴) کسی چیز کو کاٹتے وقت۔

(۵) چھینک مارتے وقت۔

(۶) تعجب کے وقت۔

(۷) بدبو والی جگہ سے گزرتے وقت۔

ان سات اوقات کے علاوہ چوبیس گھنٹوں میں ہر سانس میں، ہر لمحے، ہر وقت محسن عالم سید البشر رحمتہ للعالمین ﷺ پر درود شریف پڑھا جائے۔ تحقیق حضور ﷺ نے فرمایا۔

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَوةً

بے شک قیامت کے دن وہ شخص ^{صلی اللہ علیہ وسلم} مجھ سے سب سے زیادہ

قریب ہو گا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ ^{صلی اللہ علیہ وسلم}

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ خَيْرَ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَحْبَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

کونسا درود شریف پڑھنا چاہئے

خالق کائنات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (القرآن)

”بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں

نبی ﷺ پر اے ایمان والو تم بھی آپ ﷺ پر درود اور

خوب سلام بھیجو۔“

نماز میں جب صحابہ کو التحیات کی تعلیم دی گئی تو انہوں نے

عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ التحیات میں صرف آپ ﷺ پر سلام

بھیجا گیا ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں آپ ﷺ پر درود سلام کا حکم دیا

گیا ہے۔ لہذا درود شریف ہم کیسے پڑھیں؟ آپ ﷺ نے درود

ابراہیمی کی تعلیم فرمائی۔ گویا نماز میں سلام بھی آگیا درود شریف

بھی۔ نماز کے بعد جب درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے تو اس میں صرف

درود شریف ہے سلام نہیں ہے جبکہ ہم آپ ﷺ کا نام آنے پر ﷺ

کہتے ہیں یعنی اس میں درود و سلام دونوں آجاتے ہیں۔ لہذا نماز کے علاوہ جب بھی حضور اکرم ﷺ کا نام نامی آئے یا آپ ﷺ پر درود شریف پڑھا جائے وہ درود شریف پڑھے جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو۔ صرف درود شریف پڑھنے سے درود شریف تو ہو جائے گا مگر قرآن پاک کے حکم کی تعمیل نہ ہوگی۔ اسی طرح نبی پاک ﷺ پر صرف سلام پڑھنے سے سلام تو ہو جائے گا مگر قرآن پاک کے حکم کی تعمیل نہ ہوگی۔ کیونکہ حکم الہی اور قرآن پاک میں درود اور سلام دونوں اکٹھے پڑھنے کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ خود بھی وہ درود شریف بھیج رہا ہے جس میں درود اور سلام اکٹھا ہو۔

بس سب بھائیوں سے التماس ہے نماز کے علاوہ جب بھی درود شریف پڑھیں صرف اور صرف وہی درود شریف پڑھیں جس میں درود شریف بھی اور سلام بھی اکٹھا آجائے تاکہ اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کے حکم کی مکمل تعمیل ہو اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل جاری رہے۔

مومنو! پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود

ہے خدا کا یہ وظیفہ الصلوٰۃ والسلام

تخلیق: عبدالعلی عابد

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْأُمِّيِّ

درود شریف کس طریقہ سے پڑھنا چاہئے

حبیبِ خدا کا ذکر ہو کہیں ہو نہ جائے بے ادبی
گلاب و عنبر سے تو دھو لاکھوں بار زباں اپنی

تخلیق: عبدالعلی عابد

اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی اور عظیم المرتبت ہستی کا نام لینے کے لئے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ جب سے دنیا بنی اور نبی پاک ﷺ کے آنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی پر۔ نہ کسی رسول پر۔ نہ کسی پیغمبر پر۔ درود اور سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک ﷺ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو ہم پر بھی فرض ہے کہ نبی پاک ﷺ سے محبت رکھ کر درود شریف پڑھیں اس لئے درود شریف پڑھتے ہوئے ظاہری اور باطنی آداب کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے۔ کیونکہ تقاضائے محبت یہی ہے کہ ادب اور احترام سے بارگاہ رسالت ﷺ میں درود شریف پیش کیا جائے، لہذا درود شریف پڑھتے وقت مندرجہ ذیل آداب کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

(۱) درود پاک پورے ذوق و شوق، لگن اور محبت سے پڑھنا چاہئے۔

دل و دماغ کو پوری طرح حاضر رکھنا ضروری ہے اور دل سے ہر طرح کے خیالات نکال کر اپنی پوری توجہ درود شریف پر رکھنی چاہئے اور اپنے ذہن میں یوں خیال کریں کہ نبی اکرم ﷺ کی مجلس میں حاضری ہے اس لئے ان کی عظمت اور رفعت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے قائم کریں۔

(۲) درود پاک پڑھتے وقت اپنے چہرے کا رخ اُس طرف کرنا چاہئے جس طرف نبی اکرم ﷺ کا روضہ اقدس ہے پھر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کی صورت درود پاک پڑھنا شروع کرے اور کوشش کرے کہ جتنا عرصہ درود پاک پڑھا جائے مراقبہ رہے۔

(۳) درود پاک پڑھتے ہوئے نبی اکرم ﷺ کا تصور کرنا چاہئے اگر خواب میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہو گئی ہے۔ تو وہ صورت دل نشین کر کے اس پر اپنا تصور جمانا چاہئے۔ اگر زیارت نہ ہوئی ہو تو زیارت کا طلبگار رہنا چاہئے۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی کثرت ہو جائے گی۔ تو پھر درود پاک پڑھنے والے کی روح کا مجلس محمدی ﷺ میں آنا جانا ہو جائے گا۔ اور جوں جوں ان ﷺ کی محبت میں زیادہ محو ہو گا۔ اسی نسبت سے اس کی روح پر انوارات الہیہ کا نزول ہو گا اور دن بہ دن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آجائے گا کہ وہ اپنے گرد نور کا بحر بیکراں

محسوس کرے گا اور اس بحر بیکراں میں درود شریف پڑھنے والے کی روح غوطہ زن ہو کر روحانیت سے مالا مال ہو جائے گی۔

(۴) درود شریف کو حکم کی اتباع تصور کرنا چاہئے اور درود شریف پڑھنے کا مقصد رضائے الہی اور نبی پاک ﷺ سے محبت ہونا چاہئے بلکہ یہ نیت پیش نظر رہنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور نبی پاک ﷺ سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت رکھ کر درود شریف پڑھ رہا ہوں ایسا خیال دل میں رکھ کر درود شریف پڑھنے سے آپ کو دو گنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔

(۵) درود پاک پڑھنے والے کا جسم اور لباس پاک صاف ہونا چاہئے کیونکہ ہر عبادت کے لئے پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے۔ اس لئے درود شریف کے لئے بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا درود شریف کو با وضو پڑھئے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسواک سے اپنے منہ کو صاف رکھنا چاہئے۔ خوشبو لگانا بھی بہتر ہے پھر ذہن کو بھی ہر طرح کے خیالات سے پاک کر کے درود شریف پڑھنا چاہئے۔

(۶) درود شریف جس مقام پر پڑھا جائے اس مقام کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لئے ناپاک اور گندی جگہ پر درود شریف نہیں پڑھنا چاہئے۔ لہذا ایسی جگہ جہاں پر غلاظت کا احتمال ہو یا کوئی حکمی یا حقیقی غلاظت لگی ہو تو وہاں پر درود شریف نہیں پڑھنا چاہئے

ایسی جگہ جہاں ایفون، بھنگ، چرس اور شراب وغیرہ کا نشہ کیا جاتا ہو وہاں بھی درود شریف نہیں پڑھنا چاہئے ایسے ہی وہ جگہ جہاں عیش و عشرت کی محفل گرم ہونا چگانا اور لہو و لعب کی مجلس ہو یا جھوٹ بولا جا رہا ہو۔ غیبت یا جھوٹے لطیفے بازی ہو رہی ہو یا تمسخر ہوتا ہو یا غیر شرعی گفتگو ہو یا ایسی باتیں ہوتی ہوں جن سے نفرت آتی ہو ان مقامات پر بھی درود شریف نہیں پڑھنا چاہئے۔

(۷) درود شریف پڑھتے ہوئے شہرت اور ریاکاری سے بچنا چاہئے دنیاوی جاہ و جلال حاصل کرنے کی نیت نہیں کرنی چاہئے اگر کسی کے مدعو کرنے پر محفل درود شریف میں شرکت کرے تو دعوت دینے والے یا کسی اور پر احسان نہیں رکھنا چاہئے بلکہ درود شریف کے پڑھنے میں رضائے الہی اور نبی پاک ﷺ کی محبت کا مقصد ہی پیش نظر رکھنا چاہئے۔ کیونکہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ”جہاد فی سبیل اللہ! یعنی اللہ کی راہ میں تلواریں چلانے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے نبی پاک ﷺ سے محبت رکھنا افضل اور بہتر ہے“

(القول البدیع صفحہ نمبر ۱۲، سعادة الدارين صفحہ ۸۸)

(۸) نبی پاک ﷺ کا نام نامی سے یا لکھے تو آپ ﷺ پر درود شریف ضرور پڑھے۔ یعنی ﷺ ضرور پڑھے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اس واسطے ﷺ کہنا اور لکھنا

ضروری ہے۔ حضرت ابو عباسؒ مشہور محدث تھے۔ نبی اکرم ﷺ کے نام نامی کو لکھتے وقت صرف صلی اللہ لکھا کرتے تھے۔ ایک رات نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم چالیس نیکیاں کیوں ضائع کر لیتے ہو۔ مجھ ﷺ پر وسلم کے چار حروف کو نظر انداز کر کے ان نیکیوں سے کیوں محروم رہتے ہو کیونکہ ایک ایک حرف کے بدلے میں دس نیکیاں ملتی ہیں تو اسی روز سے ابو عباسؒ نے درود شریف کے پورے الفاظ لکھنے شروع کر دیئے۔

(۹) درود پاک دونوں طرح یعنی بلند آواز یا پست آواز سے پڑھ سکتا ہے اگر اونچی پڑھے تو بھی معتدل آواز سے پڑھنا چاہئے۔ درود شریف پڑھتے وقت آواز کو دلکش انداز میں نکالنا چاہئے درود شریف پست آواز سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے دل جمعی پیدا ہوتی ہے اور روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

(۱۰) درود پاک اگرچہ ہر مسلمان کو کثرت سے پڑھنا چاہئے۔ مگر اس کے پڑھنے میں پیر کامل کی اجازت سے تائید حاصل کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ پیر کامل کی اجازت سے اس میں اس کی دعا شامل ہو جاتی ہے جو زیادہ روحانی فوائد کا باعث بنتی ہے اگر کسی نے بیعت نہ کی ہو تو اسے پھر بھی درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا چاہئے کیونکہ درود شریف پڑھنے میں فائدہ ہی فائدہ۔ نفع ہی نفع ہے اور رحمت حاصل کرنے کا آسان راستہ ہے۔

(۱۱) حضرت ابوالمواہب شاذلی قدس سرہ فرماتے ہیں ایک دن میں

نے درود پاک جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا تاکہ میرا درود جو کہ ایک ہزار بار روزانہ کا تھا جلدی پورا ہو جائے تو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے شاذلی تجھے معلوم نہیں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ آہستہ آہستہ اور ترتیب کے ساتھ پڑھ۔ ہاں اگر وقت تھوڑا ہو تو پھر جلدی جلدی پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ نیز فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میں صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہا ہے کہ جلدی جلدی نہ پڑھو! یہ افضلیت کے طور پر ہے ورنہ جیسے بھی درود شریف پڑھو وہ درود ہی ہے اور بہتر یہ ہے کہ جب تو درود پاک پڑھنا شروع کرے اول اور آخر درود تمامہ پڑھ لیا کرے۔“

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دینِ حق کی شرطِ اول ہے
اسی میں ہو اگر خامی تو سب دین نامکمل ہے

(علامہ اقبال)

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰیكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

درویش شریف اور نذرانہ عقیدت

خدا کا ورد جو ہے بس درودِ پاک
 دین و دنیا کا سہارا ہے بس درودِ پاک
 جان کنی میں کام آتا ہے بس درودِ پاک
 آفاتِ قبر کو مٹاتا ہے بس درودِ پاک
 پلِ صراطِ پہ پار لگاتا ہے بس درودِ پاک
 سایہِ عرش میں بٹھاتا ہے بس درودِ پاک
 مشکلاتِ حشر سے بچاتا ہے بس درودِ پاک
 شفاعتِ رسول دلاتا ہے بس درودِ پاک
 اللہ کا دیدار کرواتا ہے بس درودِ پاک
 میزان میں جنت دلاتا ہے بس درودِ پاک
 ہر مشکل میں ساتھ نبھاتا ہے بس درودِ پاک
 فرشتوں سے افضل بناتا ہے بس درودِ پاک
 عشقِ رسول دلاتا ہے بس درودِ پاک
 اللہ کا محبت بناتا ہے بس درودِ پاک

تخلیق:۔ عبد العلی عابد

دُرُودِ شَرِيفِ

وہ ذکر ہے
جو فرشتوں زمین پر
کیا جاتا ہے
اور
عرش بریں پر
سُنا جاتا ہے۔

توجہ!!!

اس کتاب میں بہت سے ایسے خوش قسمت لوگوں کا ذکر ہے جو خواب میں دیدار مصطفیٰ ﷺ سے مشرف ہوئے۔ مگر ان میں تین ایسی ہستیوں کا بھی ذکر موجود ہے جنہیں کھلی آنکھ جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں نبی پاک ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی۔ ان کا ذکر صفحہ نمبر 214، صفحہ نمبر 237، صفحہ نمبر 335 میں درج ہے۔

- (1) دنیا میں سب سے چھوٹا درود شریف صفحہ نمبر 256
- (2) دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود شریف صفحہ نمبر 284
- (3) نام نامی محمد ﷺ آنے پر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں کو لگانا صفحہ نمبر 321
- (4) دنیا میں جس کے ثواب کا کوئی حساب لگا ہی نہیں سکتا وہ درود شریف صفحہ نمبر 226
- (5) دنیا میں اور بعد از دنیا درود شریف کو قتا نہیں صفحہ نمبر 218
- (6) درود شریف نہ پڑھنے والے پر اللہ کی لعنت صفحہ نمبر 208

جس نے کیا دیدار کھلی آنکھ سے رسول کا
درجہ بلند وہ پا گیا عشق رسول کا
اللہ نے اُس پر آتشِ دوزخ کی حرام
جس نے پڑھا درود اللہ کے رسول کا

تخلیق :- میاں عبدالعلی عابد

دروود ابراہیمی

نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس کی تین وجوہات ہیں۔
 تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا ”یا اللہ! آخر الزمان نبی محمد ﷺ کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے دو رکعت پڑھے تو اسکے حق میں میری شفاعت قبول فرما“ اس دعا پر حضرت سارہ اور ہاجرہ اور حضرت اسمعیل نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسمعیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ! امت محمدی ﷺ کا جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے دو رکعت پڑھے اسکے حق میں میری شفاعت قبول فرما اس پر حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور ہاجرہ اور حضرت اسحاق نے آمین کہی۔ حضرت اسحاق نے دعا مانگی یا اللہ! آخر میں آنے والے نبی محمد ﷺ کی امت کا جو ادھیڑ عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے دو رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے باقی افراد نے آمین کہی۔ ان کے بعد حضرت بی بی سارہ نے التجا کی یا اللہ! نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ ﷺ کی امت کی جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے دو رکعت پڑھے اسکے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ سب نے کہا آمین۔ آخر میں بی بی ہاجرہ نے دعا کی اے اللہ! امت محمدی ﷺ کی جو بھی لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے دو رکعت پڑھے

اسکے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ سب نے مل کر کہا آمین۔

سب سے بڑی پہلی وجہ یہ اوپر والی دعائیں جو حضرت ابراہیم اور انکے خاندان نے امت محمدی ﷺ کے لئے مانگیں۔ دوسرا اسی محبت کی وجہ سے رسول اکرم ﷺ نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ تیسری وجہ معراج شریف کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک ﷺ سے کہا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ ان تینوں وجوہات کی بنا پر امت محمدیہ ﷺ کو حکم دے دیا گیا کہ حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کے حق میں پانچوں نمازوں میں دعا کر دیا کریں۔ یہ دعا درود کی صورت میں ہے جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں درود ابراہیمی بہت عظیم درود شریف ہے۔ بہت سے صالحین فرماتے ہیں اگر کوئی اس درود شریف کو روزانہ ایک ہزار بار پڑھے تو اسے ضرور زیارت مصطفیٰ ﷺ نصیب ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَ

پر صلوٰۃ بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت

عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝

براہیم علیہ السلام کی آل پر صلوٰۃ بھی بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو

كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ

برکت دے جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو برکت دی

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝

بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔

اہم نورانی رحمت اللہ صیہ فرمانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا
بیٹھے کہ میں سب سے افضل درود شریف پڑھوں گا تو اس درود
شریف کے پڑھنے سے اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔

حکم قرآن ہے ایسا درود شریف پڑھا جائے جس میں درود اور سلام
دونوں ساتھ ہوں۔ مگر درود ابراہیمی میں صرف درود شریف ہے اور
نبی کریم ﷺ پر سلام نہیں ہے۔ اس لئے یہ حکم قرآن کی عمل فقہیل
نہیں کرتا۔ مزید معلومات سیکھنے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 26 اوردیکھیں

درود حبیب

یہ درود شریف عاشقان رسول اکرم ﷺ کا خصوصی وظیفہ ہے۔ درود حبیب میں درود بھی ہے اور سلام بھی یہ ایک انمول تحفہ ہے اس کے بے پناہ فیوض اور برکات ہیں اسے پڑھنے سے بے پناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں بھولی ہوئی چیزیں یاد آجاتیں ہیں حضور اکرم ﷺ کی قربت نصیب ہوتی ہے دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے۔ اعمال نامہ میں کثرت سے نیکیاں لکھیں جاتیں ہیں یہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ درود شریف قبر کی روشنی ہے یہ درود شریف حضور اکرم ﷺ کی شفاعت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا یہ دعا کے آغاز اور اختتام پر یہ درود شریف پڑھنا چاہئے۔ ہر مجلس کے شروع میں یہ درود شریف پڑھنا چاہئے۔ صبح و شام بلکہ ہر نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھنا بہت مفید ہے۔ وعظ اور تقریر کے شروع میں حج کے مناسک ادا کرتے وقت، مساجد میں، فارغ وقت میں،

وہ جس وقت موقع پائیں اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔
انشاء اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی یہ چھوٹا بھی ہے اور
درود و سلام دونوں موجود ہیں قرآن پاک کے مطابق اور حکم الہی
کے مطابق ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلٰی

لے اللہ کے رسول تجھ پر درود اور سلام ہو۔ اور لے اللہ کے

اِلَیْكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

حبیب تمہاری آل اور صحابہ پر بھی درود اور سلام ہو۔

درود حضرت خضر علیہ السلام

یہ درود حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک تحفہ ہے جو شخص اس درود شریف کو کثرت سے پڑھے گا اللہ
تعالیٰ خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی حاضری لازمی نصیب فرمائے گا۔
یہ درود شریف اولیاء اللہ کے اکثر معمول میں رہا ہے۔ بے شمار
اولیاء اللہ نے اسے پڑھا ہے۔ خاص کر میاں شیر محمد شریقی پوری

عارف کامل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی یہی درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے کیونکہ یہ درود شریف الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے۔ مگر معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ اس درود پاک کے فائدے بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس درود شریف کو پڑھنے والا حضور اکرم ﷺ کا محبوب غلام بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور سکون و قلب کی حالت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دین و دنیا عاقبت سنوار دیتا ہے۔ الغرض اتنے فوائد ہیں کہ لکھنے سے تمام کتاب ختم ہو جائے گی۔ یہ درود شریف حضرت خضر کا ہمارے لئے ایک انمول تحفہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِیْبِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاٰلِهِ

لے اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے

اصحابہ وسلم ○

صحابہ پر سلام اور درود بھیج۔

درود تاج

درود تاج بے پناہ فیوض و برکات کا منبر اور عاشقان رسول ﷺ کا محبوب و وظیفہ ہے بے شمار صوفیا اور اولیاء اللہ نے یہ درود شریف خود پڑھا اور اپنے سلسلہ طریقت میں اپنے ارادہ مندوں کو پڑھنے کی تلقین کی۔ اس درود پاک میں پڑھنے والے کو صاحب کشف بنا دینے کی خصوصیت بہت نمایاں ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص صاحب کشف بننا چاہے تو اسے چاہئے کہ اس درود شریف کو روزانہ ۱۰۰ مرتبہ پڑھے اور تین سال تک یہی معمول جاری رکھے انشاء اللہ اس عرصے میں صاحب کشف بن جائے گا اور اگر وہ اس سلسلے کو تاحیات جاری رکھے تو وہ صاحب روحانیت بن جائے گا۔ کیونکہ درود شریف صفائی قلب کے لئے نہایت ہی اکیس نسخہ رکھتا ہے اس لئے جو شخص اس درود کو روزانہ کم از کم مرتبہ پڑھتا ہو اس کا دل گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور نیک راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص رسول اکرم ﷺ کی زیارت کا خواہشمند ہو تو وہ اس درود شریف کو جمعہ کی رات کو ستر مرتبہ پڑھے اور چالیس جمعہ تک

یہی عمل جاری رکھے انشاء شرف زیارت سے مشرف ہوگا۔

دفع سحر یا آسیب اور جن، شیاطین کے تنگ کرنے کی صورت میں اس درود پاک کو ۱۱ مرتبہ پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ آسیب، جن وغیرہ ہو تو دفع ہو جائے گا۔ اضافہ رزق کے لئے بعد نماز فجر سات مرتبہ روزانہ وظیفہ کے طور پر پڑھنا روزی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ دشمنوں، ظالموں، حاسدوں، حاکموں کی زیادتیوں سے بچنے کے لئے اسے روزانہ ایک بار پڑھنا ہی کافی ہے۔ کسی نیک مقصد یا حاجت کے لئے نصف شب کے بعد ۴۰ مرتبہ صدق دل پڑھنا بہت اکثر ہے۔ شفا کے لئے پانی پر ۱۱ مرتبہ پڑھ کر دم کرنا شفا یابی کا موجب ہوگا۔ اگر کوئی حب تنخیر خلق کے لئے اس کا عامل بننا چاہے تو اسے چاہئے کہ چالیس رات خلوت میں بیٹھ کر اسے روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے انشاء اللہ چلہ مکمل ہونے پر جس کی طرف توجہ کرے گا وہی قائل ہو کر آسیر ہو جائے گا۔

بانجھ عورت کے واسطے اکیس خرموں پر سات دفعہ پڑھ کر دم کر لے اور ہر روز ایک خرما اس کو کھلائے بعد غسل طہارت اس سے

ہم بستر ہو۔ خدا کے فضل سے فرزند صالح پیدا ہوگا۔ اگر عورت حاملہ کو کسی بھی قسم کی خلل ہو تو سات دن تک سات مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں۔ مالک کے فضل سے خیر ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما

صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ

جو صاحب تاج و معراج اور براق والے اور چھنڈے

دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ

والے ہیں جن کے وسیلے سے بلا و با قحط مرض اور

وَالْأَلَمِ اسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَّرْفُوعٌ مَشْفُوعٌ

دکھ دور ہوتا ہے آپ کا نام نامی لکھا گیا بلند کیا گیا قبول

مَنْقُوشٌ فِي اللُّوحِ وَالْقَلَمِ سَيِّدِ الْعَرَبِ

شفاعت کیا گیا اور لوح و قلم میں کھدا ہوا ہے آپ عرب

وَالْعَجَبِ حِسْمَهُ مُقَدَّسٌ مَعْظَرٌ مَطَهَّرٌ

و عجم کے سردار ہیں آپ کا جسم نہایت مقدس خوشبودار پاکیزہ

مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ شَمْسِ الصُّحَىٰ

اور خانہ کعبہ و حرم پاک میں منور ہے آپ چاشت گاہ کے آفتاب اندھیری رات

بَدْرٍ الدُّجَىٰ صَدْرِ الْعُلَىٰ نُورِ الْهُدَىٰ

کے ماہتاب بلندیوں کے صدر نشین راہ ہدایت کے نور

كَهْفِ الْوَرَىٰ مِصْبَاحِ الظُّلَمِ جَمِيلِ

مخلوقات کی جائے پناہ اندھیروں کے چراغ نیک اطوار کے

الشَّيْمِ شَفِيعِ الْأَمْرِ صَاحِبِ الْجُودِ

مالک امتوں کے بخشوانے والے بخشش و کرم سے

وَالْكَرِيمِ وَاللَّهِ عَاصِمُهُ وَجَبْرِيلُ خَادِمُهُ

موصوف ہیں اللہ آپ کا نگہبان جبریل آپ کے خدمت گزار

وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ وَالْبِعْرَاجُ سَفَرُهُ

بُراق آپ کی سواری معراج آپ کا سفر

وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ وَقَابُ قَوْسَيْنِ

سدرۃ المنتہی آپ کا مقام اور رقب خداوندی میں

مَطْلُوبُهُ وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ وَالْمَقْصُودُ

قَاب قَوْسَيْنِ کا مرتبہ آپ کا مطلوب ہے اور مطلوب ہی آپ کا مقصود

مَوْجُودُهُ لَا سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ

ہے اور مقصود آپ کو حاصل ہے آپ رسولوں کے سرور نبیوں میں سب سے

شَفِيعِ الْمُدْنِيِّينَ أَنْبِيَاءِ الْغَرِيبِينَ رَحْمَةً

پیچھے آنے والے گنہگاروں کے بخشوانے والے مسافروں کے غمخوار دنیا

لِلْعَالَمِينَ رَاحَةَ الْعَاشِقِينَ مُرَادِ

جہان کے لیے رحمت عاشقوں کی راحت مشتاقوں کی مُراد

وَالْمُشْتَاقِينَ شُمُسِ الْعَارِفِينَ بِسِرَاجِ

خدا شناسوں کے آفتاب راہ خدا پر چلنے والوں

السَّالِكِينَ مَصْبَاحِ الْمُقَرَّبِينَ مُجِبِّ الْفُقَرَاءِ

کے چراغِ مقربوں کے راہِ نما محتاجوں غریبوں

وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسْكِينِ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ

اور مسکینوں سے محبت رکھنے والے جن وانس کے سردار

نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسَيِّدِنَا

حرمین کے نبی دونوں قبلوں (بیت المقدس و کعبہ) کے پیشوا

فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ

اور دنیا و آخرت میں ہمارے وسیلہ ہیں وہ جو مرتبہ قاب قوسین

مُحِبُّوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ

پر فائز ہیں دو مشرقوں اور دو

الْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

مغربوں کے رب کے محبوب ہیں حضرت امام حسن اور

مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ أَبِي الْقَاسِمِ

حضرت امام حسین کے جدِ امجد اور ہمارے اور (تمام) جن وانس کے

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نُورٍ مِّنْ نُورِ

آقا ہیں یعنی ابی القاسم محمد ﷺ بن عبد اللہ جو اللہ کے نور میں سے ایک

اللَّهُ يَا أَيُّهَا الْمَشْتَاقُونَ بِنُورِ جَمَالِهِ

نور ہیں اے نورِ جمال محمدی ﷺ کے مشتاقو! آپ ﷺ پر

صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ

اور آپ ﷺ کی آل اور آپ ﷺ کے صحابہ پر درود و سلام

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

بھیجو جو بھیجنے کا حق ہے

درود تنجینا

درود تنجینا سے مراد وہ درود شریف ہے۔ جسے پڑھنے سے ہر
مشکل مہم سے نجات ملتی ہے۔ علامہ فاکہانی نے قمر منیر میں ایک
بزرگ شیخ موسیٰ کا واقع بیان کیا ہے۔ کہ انہوں نے بتایا کہ ہم قافلے
کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طوفان کی زد
میں آگیا۔ یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا ہم لوگ

یقین کر بیٹھے کہ چند لمحوں بعد ڈوب جائیں گے اور ہم لقمہ اجل بن جائیں گے کیونکہ ملاحوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز طوفان سے کوئی قسمت والا جہاز ہی بچتا ہے۔

شیخ فرماتے ہیں اس عالم افراتفری میں مجھ پر غیند کا غلبہ ہو گیا۔ چند لمحہ غنودگی طاری ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم ﷺ تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود شریف دو ہزار بار پڑھو میں بیدار ہوا اپنے دوستوں کو جمع کیا۔ وضو کیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، ابھی ہم نے تین سو بار درود شریف پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا کہ آہستہ آہستہ طوفان رک گیا اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پر امن ہو گئی اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔

اس درود پاک کا نام تختینبی یا تخینار کھا گیا ہے۔ اس کے بے پناہ فضائل ہیں اور بزرگان دین نے بارہا مرتبہ آزمایا ہے۔ جناب غوث الاعظمؒ نے فرمایا ایک شخص نہایت مشکل میں گرفتار ہو گیا اس نے وضو کر کے معطر ہو کر یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو مشکل

حل ہو گئی اس درود پاک کو جو شخص ادب و احترام سے قبلہ رخ ہو کر ہر روز تین سو بار پڑھے گا اللہ کے فضل سے اسکی سخت سے سخت مشکل حل ہو جائے گی۔

شرح دلائل الخیرات کے مولف نے لکھا ہے کہ جسے نبی کریم ﷺ کی زیارت کا شوق ہو وہ خاص نیت سے یہ درود پڑھے اور بعد از نماز عشاء ایک ہزار بار پورا کرنے اور بستر کو معطر کر کے با وضو ہو کر سو جائے انشاء اللہ تعالیٰ چالیس دن کے اندر اندر زیارت رسول مقبول ﷺ ہوگی۔ اگر اللہ کرم کرے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہی زیارت ہو جائے۔

ایک بزرگ کا کہنا ہے یہ درود شریف دس دفعہ پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے قبر سے نجات ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیماریوں سے تنگ حضرات اس درود شریف کو کثرت سے پڑھیں تو انشاء اللہ بیماریوں اور ڈاکٹروں سے نجات پا جائیں گے۔

لاہور کے ایک صوفی بزرگ حضرت حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بانی مرکزی مجلس رضاء پاکستان نے فرمایا ”جو کوئی شخص حضرت داتا گنج بخش سید علی ہجویری مخدوم رحمۃ اللہ علیہ لاہوری کے چہرے مبارک کے سامنے

کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ پہلے درود تاج اور پھر درود تحینا پڑھتا ہے تو حضرت فیض عالم داتا سید علی ہجویری مخدوم رحمۃ اللہ علیہ یہ درود شریف خوش ہو کر سنتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ درود شریف سننے کو بہت پسند کرتے ہیں اور درود شریف پڑھنے والے کو انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ خزانوں میں سے نوازتے ہیں۔ (سبحان اللہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اللہ تعالیٰ ہمارے سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ

پر ایسی رحمت و برکت نازل فرما جس سے ہمیں

جَمِیْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضٰی لَنَا

تمام ڈر خوف اور آفتوں سے نجات ہو جائے اور جس کی

بِهَا جَمِیْعَةُ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ

برکت سے ہماری تمام حاجتیں روا ہو جائیں اور جس کی بدولت ہم تمام

جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى

گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں اور جس کے وسیلہ سے ہم تیری بارگاہ میں

الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ

اعلیٰ درجوں پر متمکن اور جس کے ذریعے ہم زندگانی کی تمام نیکیوں اور مرنے

مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ

کے بعد کی تمام اچھائیوں سے بدرجہ غایت فائدہ حاصل کریں

السَّمَاوَاتِ اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ وَرَافِعُ

خدائے پاک تحقیق آپ ہماری دعاؤں کے قبول فرمانے والے ہیں اور

الدَّرَجَاتِ وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ وَيَا

ہمارے درجات کو بلند کرنے والے اور ہماری حاجتوں کو بر لانے والے

كَافِيَ الْهَمَمَاتِ وَيَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ وَيَا حَلَّ

اور ہماری بلاؤں کو رفع کرنے والے اور ہماری سخت مشکلات

الْمُشْكَلَاتِ اَعِثْنِي اَعِثْنِي اَعِثْنِي يَا اِلٰهِي

کے حل کرنے والے میری فریاد کو پہنچیں اور اسے اپنے حضور تک رسائی دیں میری

اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

عرض قبول فرمائیں الہی! تحقیق تو ہی ہر چیز پر قادر ہے

درود غوثیہ

یہ درود شریف خاندانِ قادرِ یہ کے معمولات میں سے ہے۔ اکثر قادری بزرگ اپنے مریدوں کو اسے روزانہ پانچ سو گیارہ مرتبہ یا ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ درود شریف رحمتِ خداوندی کا خزانہ ہے۔ لہذا جو شخص اس درود پاک کو روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ تاحیات پڑھتا ہے وہ رحمتِ خداوندی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کے بندے کا کہنا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو کم از کم ایک بار ضرور پڑھے تو اسے سات نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ (۱) رزق میں برکت (۲) تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ (۳) نزع کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ (۴) جان کنی کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ (۵) قبر میں وسعت ہوگی۔ (۶) کسی کی محتاجی نہ ہوگی۔ (۷) مخلوق خدا اس سے محبت کرے گی۔ اس سے معلوم ہوا

کہ اس درود پاک کی برکات حاصل کرنے کے لئے اسے روزانہ پڑھنا چاہئے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم ﷺ کے قرب اور زیارت کے لئے بھی یہ درود شریف بہت موثر ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار و آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو

مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالِیْهِ

جود و کرم کا خزانہ ہیں پر اور ان کی آل پر

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

دُودِ بَرَكْتٍ اَوْ سَلَامٍ یُّبْحِجُ۔

دُودِ حَضْرَتِ غَوْثِ الْاَعْظَمِ

دُودِ حَضْرَتِ غَوْثِ الْاَعْظَمِ وہ درود شریف ہے جس پر حضرت عبد القادر جیلانی نے اپنے اور اوروں کو ختم کیا ہے۔ یہ درود شریف بہت بابرکت والا درود شریف ہے۔ پڑھنے والے کی غیب سے ہر کام میں مدد ملتی ہے۔

اس درود پاک کے متعلق بہت بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس درود شریف کو دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام پڑھے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں اسے دائم الحضور ہی حاصل ہو جائے گی۔ اس درود پاک کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور برائی سے محفوظ رہتا ہے۔

جو شخص عاشق رسول بننا چاہے تو اسے چاہئے کہ اس درود پاک کو اپنی زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ پڑھے۔ انشاء اللہ اس کا شمار عاشقان رسول میں ہو جائے گا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ

الہی رحمت نازل فرما ہمارے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا نور ساری

لِلْخَلْقِ نُوْرًا وَرَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ظُھُوْرًا

مخلوق سے پہلے پیدا ہوا اور ان کا ظہور تمام کائنات کے لیے رحمت ٹھہرا

عَدَدَ مَنْ مَّضٰی مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِیَ وَ

شمار میں تمام اگلے اور پچھلے تیری مخلوق کے برابر اور ہر ایک نیک بخت

مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةً تَسْتَعْرِقُ

اور بدبخت کی گنتی کے برابر ایسا دُرود جو شمار میں

الْعَدَدِ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةً لَا غَايَةَ وَلَا

نہ آکے اور تمام حدود کا احاطہ کرے جس دُرود کی نہ کوئی غایت ہو اور

مُنْتَهَى وَلَا انْقِضَاءَ صَلَوةً دَائِمَةً بَدَ وَامِكَ

نہ انتہا اور نہ اختتام ، ایسا دُرود جو ہمیشہ رہے تیرے دوام

وَعَلَىٰ إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مِّثْلَ ذَلِكَ

کے ساتھ اور ان کی اولاد اور اصحاب پر اور اسی طرح ان پر خوب خوب سلام نازل ہوا

درود لکھی

درود لکھی مسلمانوں کے مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی کی طرف منسوب ہے، کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا معمول تھا کہ وہ روزانہ صدق دل بطور وظیفہ حضور اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر ایک لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ لامحالہ ایک لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے میں رات دن کا بیشتر حصہ صرف ہو جاتا اس وجہ سے امور سلطنت کو سرانجام دینے کے لئے فرصت کا وقت

بہت کم ملتا تھا اس طرح ان کا وسیع و عریض سلطنت میں بعض اوقات انتظام درست نہ رہتا۔ ایک رات عالم خواب میں سلطان محمود غزنوی کو حضور اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی اور آپ ﷺ نے خواب ہی میں محمود غزنوی کو یہ درود شریف سکھایا اور فرمایا ﷺ کہ نماز فجر کے بعد اسے ایک بار پڑھ لیا کرو تو ایک لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی اس درود پاک کو جتنی بار پڑھا جائے گا اتنی لاکھ بار اجر و ثواب ملے گا محمود غزنوی نے اس نعمت عظمیٰ کو عام کیا اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس درود شریف کے پڑھنے کی تلقین فرمائی کیونکہ درود شریف نیکیاں دلاتا۔ گناہوں کو مٹاتا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور درجے بلند کرتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دلاتا ہے۔

سب سے زیادہ اجر و ثواب دلائے گا درود پاک
گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹائے گا درود پاک
رحمتیں اللہ کی ہر دم اسی پہ ہوتی ہیں
درجے بلند سے بلند دلائے گا درود پاک

(تخلیق: عبدالعلی عابد)

یہ درود شریف مغفرت بخشش اور گناہوں کی معافی کے لئے بہت اکیسر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے مرحوم شدہ آباء و

اجداد کی مغفرت ہو جائے اور عالم برزخ انہیں راحت ہو جائے تو اسے چاہئے کہ یہ درود شریف گیارہ مرتبہ روزانہ چالیس دن تک پڑھے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور اس درود شریف کے وسیلہ سے ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرے۔ انشاء اللہ! انہیں معاف کر کے ان کی قبر کو مثل جنت بنا دے گا۔ اس کے علاوہ یہ درود شریف دینی اور دنیاوی حاجات پوری ہونے کے لئے بھی بہت موثر ہے۔ اس لئے ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے فلاح دارین حاصل ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اس درود پاک کا ورد اضافہ رزق کا باعث بنتا ہے۔ اس درود پاک کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھا جائے وہاں اتفاق و برکت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا اگر کسی گھر میں بے سلوکی اور جھگڑا رہتا ہو تو اس درود شریف کو پڑھنے سے گھر میں امن و امان اور آپس میں ہمدردی پیدا ہو جائے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اللہ! ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

آپ کی آل پر بے شمار اپنی رحمت کے دُرود و سلام

رَحْمَةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر اور آپ کی آل پر بے شمار اپنے فضل کے

بِعَدَدِ فَضْلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ

عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بے شمار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ خَلْقِ اللَّهِ اللَّهُمَّ

اپنی مخلوقات کے رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بے شمار

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ عِلْمٍ

اپنی معلومات کے رحمت کاملہ اور سلامتی نازل

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَ

فرما الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اور آپ کی آل پر بشار اپنے کلمات کے

مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كَلِمَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اپنی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كَرَمِ اللَّهِ

بزرگی کے برابر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

آپ کی آل پر کلام اللہ کے حروف کے برابر

حُرُوفِ كَلِمَةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما الہی ہمارے آقا و مولیٰ

عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ قَطْرَاتِ الْأَمْطَارِ

پر بارشوں کے قطروں کے برابر رحمت کاملہ اور سلامتی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

آپ کی آل پر درختوں کے پتوں کے برابر رحمت کاملہ اور

أوراق الأشجار اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صحراؤں کی

مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ رَمْلِ الْقِفَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ریت (کے ذروں) کے برابر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بشار

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا خُلِقَ فِي

ہر اس چیز کے جو سمندروں میں پیدا کی گئی رحمت کاملہ اور

الْبَحَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آپ کی آل پر دانوں اور پھلوں کی تعداد میں رحمت کاملہ

بِعَدَدِ الْحُبُوبِ وَالشِّمَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بشار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

راتوں اور دنوں کے رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اللہ ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا

آل پر بشار ان چیزوں کے کہ جن پر رات نے اندھیرا اور

أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ

دن نے روشنی کی رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اللہ ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

آپ کی آل پر بشار ان (نفوس) کے جنہوں نے حضور اقدس

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر درود بھیجا رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بشارت (خوشی) کے رحمت

مُحَمَّدٍ يَعْدُدُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ط اللَّهُمَّ

کاملہ اور سلامتی نازل فرما جنہوں نے حضور پر درود نہیں بھیجا

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَعْدُدُ أَنْفَاسِ

آل پر اس قدر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما جس قدر کہ مخلوق

الْخَلَائِقِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

نے سانس لی۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی آل پر آسمان کے ستاروں کے برابر

بَعْدَ نَجْوَمِ السَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

رحمتِ کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دُنیا اور

مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

آخرت کی ہر چیز کے برابر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔

صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

خدا کے برتر کی رحمتیں اور اس کے فرشتوں، نبیوں

وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ الْخَلَائِقِ عَلَى سَيِّدِ

رسولوں اور تمام مخلوقات کا درود رسولوں کے

الرُّسُلِ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَقَائِدِ

سردار اور پرہیزگاروں کے پیشوا درخشاں پیشانی

الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ وَشَفِيعِ الْمَدِينِينَ سَيِّدِنَا

والوں کے راہنما اور گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَ

(یعنی) ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل، آپ کے

ازواجہ و ذرّیّتہ و اہل بیتہ و اہل

اصحاب، ازواج مطہرات، اولاد اور اہل بیت پر اور تیرے تمام اطاعت

طاعتک اجمعیّن من اہل السموات

شعاروں پر جو آسمانوں اور زمینوں پر رہتے ہیں

وَالْأَرْضِیّیْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِیْمِیْنَ

اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور اے کرم کرنے

وَيَا كُرْمَ الْأَكْرَمِیْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی

والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے اپنی رحمت سے دمیری یہ التجا قبول

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِیْنَ

(فرما) حق تعالیٰ ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام

وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا دَائِمًا أَبَدًا كَثِيرًا كَثِيرًا

صحابہ پر ہمیشہ ہمیشہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے اور ہر قسم کی

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حمد و ثنا حق تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے

درودِ خمسہ

باعزت زندگی بسر کرنے اور ہر قسم کے مصائب اور مشکلات سے امن و امان میں رہنے کے لئے درودِ خمسہ کا ورد سب سے اعلیٰ اور موثر ہے۔ اس درودِ پاک کو کثرت سے پڑھنا ہر مہم میں یقیناً کامیابی کی دلیل ہے۔ اور حاجات پوری ہونے کے لئے اس درودِ پاک کو روزانہ بعد نمازِ عشاء سو مرتبہ پڑھنا بہت مجرب ہے۔ اس درودِ پاک کو روزانہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنا مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب میں راحت اور مغفرت کا سبب بنے گا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ایک صاحب کشف ولی اللہ نے ان سے دریافت کیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں ہر جمعرات کو درودِ خمسہ پڑھا کرتا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تحفۃ

المقاصد میں ہے کہ یہ درود شریف حضرت امام شافعیؒ کے معمولات میں شامل تھا۔ اور آپ اسے کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَدَدٍ مِّنْ صَلَّ

اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تعداد میں صلوٰۃ بھیج جتنی کہ چاہی

عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ

گئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چاہت اور

تَرْضٰی اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

رضاکے مطابق رحمت نازل کر جیسا کہ تو نے نازل کی ہے اور محمد صلی اللہ

كَمَا اَمَرْنَا بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰی

علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا

مُحَمَّدٍ كَمَا تُبَغِي الصَّلٰوةُ عَلَيْهِ

تے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جیسا کہ ان پر درود بھیجنے کا حق ہے

درود کشف

یہ درود شریف صاحب کشف بنی کی کنجی ہے۔ لہذا جو شخص

صاحب کشف بنا چاہے۔ اسے چاہئے تین سال تک اس درود پاک کو گیارہ سو مرتبہ صبح اور گیارہ سو مرتبہ سونے کے وقت پڑھے انشاء اللہ صاحب کشف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اسے کوئی روزانہ چند بار بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنالے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دے گا اور اس کے گناہ معاف کر دے گا اس کے رزق، مال و دولت میں خیر و برکت ہوگی اس کا خاتمہ با ایمان ہوگا قیامت کے روز حضور اکرم ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ میزان میں اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری رہے گا۔ آخر حضور اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنے کی بدولت جنت میں داخل ہوگا اور بلند مقام پائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ شَفِيعِ الْاُمَّةِ

اے اللہ اپنے نبی رحمت امت کی شفاعت کرنے والے اور پوشیدہ

كَاشِفِ الْغُمَّةِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَ

بھیدوں کے کھولنے والے پر اور ان کی آل اور صحابہ پر

بَارِكْ وَسَلِّمْ

دُرُودِ بَرَكْتِ اَوْ رِسْلَامِ بَیِّنِ

درود حل المشکلات

یہ درود شریف مشکلات کو آسان کرنے کے لئے بہت موثر ہے۔ اس لئے اسے درود حل المشکلات کہا جاتا ہے۔ اکثر بزرگوں نے اسے مشکل کے وقت پڑھا بن عابدین نے اپنی کتاب فتویٰ شامی میں لکھا ہے ایک دفعہ دمشق کا ”مفتی حامد آفندی“ سخت مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ وہاں کا وزیر ان کا دشمن ہو گیا وہ بے حد پریشان ہوئے رات کو جب آنکھ لگ گئی تو حضور اکرم ﷺ تشریف لائے اور انہوں نے تسلی دی اور یہ درود سکھایا کہ تو جب اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیری مشکل کو آسان کر دے گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے یہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل آسان کر لی۔ ابن عابدین نے کہا میں نے ایک فتنہ عظیم میں اس درود پاک کو پڑھنا شروع کیا ابھی دو سو مرتبہ میں نے پڑھا تھا ایک شخص نے مجھے اطلاع دی کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یہ درود شریف شیخ عبدالکریم کی کتاب سے ملا۔

اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ کہ عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کر کے دو رکعات نماز نفل پڑھی جائے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ”قل یا ایہا الکافرون“ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے فارغ ہونے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں سو جاتا ہے۔ اور صدق دل سے توبہ کرتے ہوئے ایک ہزار بار ”استغفر اللہ العظیم“ پڑھے، اس کے بعد دوزانوں مودبانہ بیٹھ کر یہ تصور باندھ لے کہ رسول اکرم ﷺ کے حضور میں حاضر ہوں اور عرض کر رہا ہوں، سو بار، دو سو بار، تین سو بار غرضیکہ پڑھتا جائے۔ جب نیند کو غلبہ ہو تو اسی جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ جب کچھلی رات جاگے تو پھر اسی جگہ مودبانہ بیٹھ کر صبح کی نماز تک درود شریف پڑھتا رہے۔ پڑھتے وقت اپنی حاجت کا تصور کرے انشاء اللہ ایک رات میں یا تین راتوں میں حاجت پوری ہو جائے گی آخری رات جمعہ کی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کسی وقت بھی یہ درود شریف ہزار بار پڑھنا بہت مجرب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا

كَلِّ اللّٰهُ هَمَارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام

مُحَمَّدٍ قَدْ ضَاقَتْ حِيلَتِيْ اَدْرِ كُنِيْ

اور برکت بھیج یا رسول اللہ میری سفارش کیجئے میرا حیلہ اور

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ۝

کوشش تک آچکے ہیں

درود مقدس

جو کوئی خواہ مرد ہو خواہ عورت اس درود مقدس کو تعظیم و تکریم سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پڑھنے والے کو دین و دنیا دونوں جہان کے مقاصد و مطالب حاصل ہو جائیں گے اور اس کی سب حاجتیں برآئیں گی بشرطیکہ وہ وضو کر کے پاکیزہ کپڑے معطر و مطہر پہنے اور مکان پاک ہو خواہ مسجد ہو خواہ دوسرا لیکن پہلے گیارہ بار درود شریف پڑھ کر ثواب سرور کائنات فخر موجودات، سرور دو عالم سرور انبیاء، رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی روح مقدس

کو بخشے۔ پھر دعائے ننگے فضل الہی سے اسی وقت قبول ہوگی۔ اور فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے جو کوئی مسلمان میری امت سے اس درود مقدس کو پڑھے گا قیامت کے دن ساتھ صالحوں اور شہیدوں کے ہوگا۔ اور فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے کہ جو کوئی اس درود مقدس کو اپنی تمام عمر میں ایک بار پڑھے گا تو ثواب لاکھ حج کا پائے گا۔ اور گویا دو لاکھ غلام فی سبیل اللہ آزاد کئے ہوں اور جو کوئی اس درود مقدس کو پڑھے گا تو گویا دس لاکھ دینار راہ خدا میں خیرات کئے ہوں اور دس لاکھ اونٹ راہ خدا میں قربان کئے ہوں اور دس لاکھ مرتبہ زیارت کعبۃ اللہ شریف کی ہو اور دس لاکھ مرتبہ شب قدر پائی ہو۔ دس لاکھ مرتبہ مدینہ منورہ کی مسجد بنائی ہو۔ اور جو کوئی اس درود مقدس کو پڑھے تو ثواب دس لاکھ روزے کا پائے گا اور دس لاکھ لوح اور دس لاکھ قلم کا مرتبہ پائے گا۔ جو کوئی اس درود مقدس کو پڑھے وہ جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل علیہم السلام کا ثواب پائے جو کوئی اس درود مقدس کو پڑھے تو عرش و کرسی اور لوح و قلم اور ساتوں آسمان و زمین اور آٹھوں بہشت اور اول و آخر کے

تمام فرشتوں کے برابر ثواب پائے گا۔ جو شخص اس درود مقدس کو پڑھے تو تیس پارہ کلام اللہ اور کتاب زبور اور کتاب انجیل اور کتاب تورات اور کتاب قرآن شریف کا ثواب پائے۔ جو کوئی اس درود شریف کو پڑھے تو حضرت آدم، حضرت شیث، حضرت اوریس، حضرت نوح، حضرت یعقوب۔ حضرت شعیب، حضرت الیاس، حضرت زکریا، حضرت خضر حضرت اسحاق حضرت اسماعیل، حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ علیہم السلام اور حضرت جناب سید المرسلین، شفیع المذنبین، حبیب رب العالمین احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ ﷺ کا ثواب پائے۔ بلکہ تمام نبیوں کا درجہ حاصل کرے اور جو کوئی اس درود مقدس کو پڑھے تو ثواب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرات حسنین، حضرت فاطمہ الزہراء، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور تمام شہیدان کربلا اور تمام شہداء رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ثواب پائے اور جو کوئی اس درود مقدس کو پڑھے تو ثواب تمام اصحاب و روحی خفی و جلی کا پائے اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی

درود مقدس کو پڑھے ثواب چہل تن اور تمام غوث اور تمام اقطاب اور تمام ابدال اور اولیاء کا پائے اور تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ اور تمام مور و ماہی اور اگر تمام جانوروں کے برابر ہو تب بھی اس درود مقدس کے طفیل بخش دیئے جائیں۔

اور روح اس کی حق سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے قبض کرے اور سکرات اس کی آسان ہو اور اس شخص کے جنازے پر اتنے فرشتے جمع ہوں کہ حساب ان فرشتوں کا بجز حق تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہ ہو اور وہ قبر اس کی نور سے ایسی منور ہو کہ سوال منکر نکیر کو بھی آسان ہو۔ اس درود مقدس کے طفیل اے بندے سو جا، اس طرح کہ جیسے پہلی رات کا دولہا خوشی سے سوتا ہے۔ اور فرشتے اس پر قبر کا عذاب نہ کریں گے۔ جب کہ وہ شخص قبر سے اٹھے گا تو منہ اس کا چودھویں رات کے چاند کی طرح منور ہو گا۔ لوگ کہیں گے یہ خدایا کوئی پیغمبر ہے یا کوئی اور ہے فرمان الہی ہو گا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ ایک ادنیٰ امتی ہے جو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے اسم مبارک کو سچے دل سے پڑھتا تھا اور اس کی برکت سے اس کو یہ

رتبہ حاصل ہو اور اس درود مقدس کو پڑھنے والے فرشتے اس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گا اور پل صراط سے بہت آسان گذرے گا اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اس کی شفاعت فرمائیں گے اور قیامت کے دن عرش کے نیچے بٹھلائیں گے ایسا دن قیامت کا کہ اس میں کہیں سایہ نہ ہو گا فقط عرش الہی کا سایہ ہو گا۔ جو کوئی اس درود مقدس کو پڑھے تو گویا کافروں کے ساتھ غزوہ کی ہو اور اس کے پڑھنے والے کو پروردگار عالم مرگ مفاجات سے اور تپ سرد و گرم اور سر کی درود و درد نیم سر، درد پیشانی، درد چشم، درد ناخن، درد کان، درد کہنی، ہاتھ اور پہلو کے درد، درد شرین، درد ناف، درد شک، درد دل و جگر، درد تلی، درد گھٹنا، درد پاؤں انگلیوں کے درد اور تمام بلیات آسمان و زمین اور بھوک و پیاس اور جملہ تمام بیماریاں بدن کی بہ طفیل درود مقدس کے اپنی پناہ میں رکھے گا اور اگر کسی کا نصیب بند ہو تو اس درود کو پڑھے یا لکھے یا گلے میں ڈالے انشاء اللہ اس کی برکت سے نصیب کھل جائے گا۔ اسناد اس درود مقدس کے بہت ہیں یہاں تک کہ بیان میں نہیں

آستیں۔ اس جگہ بہت تھوڑا لکھا ہے تاکہ پڑھنے والوں اور لکھنے والوں پر بار نہ ہو، اگر کوئی اس میں شک لائے گا تو کافر ہو جائے گا جو کوئی اس درود مقدس کو پڑھے گا آمنا و صدقاً قیامت کے دن پروردگار عالم اس کو بغیر حساب کئے بہشت میں پہنچائے گا اور اپنی بخشش سے سرفراز کرے گا۔

فرشتے عرض کریں گے کہ یا الہی یہ کون شخص ہے جس کو تو نے بغیر حساب کے داخل جنت کیا۔ جناب باری تعالیٰ سے ندا ہوگی اے فرشتو! اس شخص نے دنیا میں درود مقدس کو پڑھا تھا اس کے طفیل اس کے گناہ معاف کئے اور سب دعائیں اس کی قبول کیں اور فرمایا جناب سردار انبیاء سرور دو جہاں رسول خدا احمد مجتبیٰ ﷺ کی شفاعت سے سرفراز کر کے جنت میں داخل کیا۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کوئی اس درود مقدس کو پڑھے گا گویا کہ وہ حضرت رسول خدا ﷺ کی مجلس مقدس میں حاضر ہوا۔ اگر تمام روز بھی گناہ کرے گا تو یہ طفیل اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور بدلے ایک ایک ہزار ہزار گناہ اس کے معاف ہو

جائیں گے اور اس بندے پر رحمت نازل ہوگی۔ دوسری روایت بھی صحابہ مذکور سے روایت کی گئی ہے کہ فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے کہ جو کوئی امت کا مرد یا عورت ہو اور جمعہ کی رات کو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور درود مقدس کو پڑھے اور مسجد میں جا کر دعائے حق سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے گا اور جو حاجت چاہے انشاء اللہ پوری ہوگی اسے بہت لوگوں نے آزمایا ہے اور اپنی مراد کو پہنچے ہیں۔ اور روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ جس عورت کو فرزند نہ ہوتا ہو اس درود مقدس کو پانی پر دم کر کے پی جائے اور اپنے خاوند سے اسی وقت صحبت کرے فضل تعالیٰ سے اسی وقت حاملہ ہو اور انشاء اللہ تعالیٰ فرزند نرینہ اس کو پیدا ہو اور درود کو مشک و زعفران سے لکھ کر پئے پھر اپنے خاوند سے صحبت کرے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاملہ ہو یہ بھی آزمایا گیا ہے روایت کی گئی ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ سے فرمایا آپ نے کہ اگر کسی کا دشمن قوی ہو اور کسی طرح بلاک نہ ہوتا ہو تو چاہئے کہ عصر کی نماز وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور اس درود مقدس کو

پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ دشمن ذلیل و خوار ہوگا۔
یہ بھی آزمایا گیا ہے روایت کی گئی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے
کہ آپ نے فرمایا جو کوئی جمعہ کی رات کو سوتے وقت اس درود
مقدس کو پڑھے خداوند عالم اس کو چار چیزوں سے بہرہ مند کرے
اول خوشنودی حق سبحانہ و تعالیٰ دوسری خوشنودی جناب پاک سید
لالوگ شہنشاہ کون و مکان، محبوب رب دو جہاں سرور انبیاء تاجدار
مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خوشی بغیر حساب کئے جنت داخل
ہونے کی چہارم خوشی دنیا و آخرت میں روزی کی فراخی ہوگی اور
جہاں میں سب کے نزدیک مقرب ہوگا اور سب لوگ اس سے
خوش ہونگے بلکہ وہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں میں داخل ہوگا۔ یہ
بھی آزمایا ہے روایت ہے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا آپ نے کہ جو کوئی اس درود مقدس کو پڑھے اور اپنے اوپر دم
کرے گا حق تعالیٰ اس کو تمام بلاؤں اور آفتوں اور بیماریوں سے پناہ
میں رکھے گا۔

اگر وہ ضعیف ہو گیا اور اس کا ورد ہمیشہ رکھے تو انشاء اللہ عمر میں

اس کی ترقی ہو یہ مجرب ہے اور یہ بھی آزمایا گیا ہے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق ^{رضی} نے فرمایا ہے کہ اگر تمام دریا اول و آخر کی سیاہی ہو اور ساتوں طبق آسمانوں و زمین و عرش و کرسی کے کاغذ ہوں اور تمام درخت مشرق و مغرب کے قلم بنائے جائیں اور تمام آدمی جن دیو پری اور جانور تمام آبی جانور اور اٹھارہ ہزار عالم اور تمام فرشتے و عرش و کرسی لوح و قلم وغیرہ لکھنے والے جمع ہوں اور لکھنا چاہیں تو بھی ثواب اس درود مقدس کا نہ لکھ سکیں گے یہاں بالکل مختصر لکھا گیا ہے۔ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو توفیق بخشے کہ روزانہ اس درود مقدس کو پڑھتے رہیں کہ اس کے پڑھنے سے حاجتیں دینی و دنیاوی بر آئیں گی اور قتل مقاصد اور جملہ مطالب حاصل ہوں گے اور اس میں اجر و ثواب بے حساب ہے یہاں پر اس درود شریف کے فائدے بہت کم کر کے تحریر کئے ہیں، ہمیشہ درود مقدس پڑھنے کی بھی ہدایت کرو تاکہ تم پر خدا اور رسول ^{صلی اللہ علیہ وسلم} خوش ہوں بلکہ اس کا وظیفہ ہی کر لو۔ وہ پاک و برتر مکرم و معظم درود شریف مندرجہ ذیل ملاحظہ فرمائیے اور بعد پڑھنے درود مقدس کے

اور اللہ اور رسول ﷺ کے واسطے لکھنے والے اور چھاپنے والے کیلئے
بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم اس درود کے صدقے میں سچی محبت
اللہ اور رسول ﷺ اور بزرگان دین کی اس کو عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

يَا اَللّٰهُ بِحُرْمَتِ اَقْوَالِ مُحَمَّدٍ وَّ اَفْعَالِ

یا الہی! بحرمت اقوال محمد اور اعمال

مُحَمَّدٍ وَّ اَحْوَالِ مُحَمَّدٍ وَّ اصْحَابِ

محمد اور حالات محمد اور اصحاب

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَللّٰهُ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی!

بِحُرْمَتِ بَدَنِ مُحَمَّدٍ وَّ بَطْنِ مُحَمَّدٍ

بحرمت جسم مبارک محمد اور بطن مبارک محمد

وَّ بَرَكَتِ مُحَمَّدٍ وَّ بَيْعَةِ مُحَمَّدٍ وَّ

اور برکت محمد اور بیعت محمد اور

بُرَاقٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

براق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی !

يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ تَوْلِيدِ مُحَمَّدٍ وَتَعْبُدِي

بحرمت ولادت محمد اور عبادت

مُحَمَّدٍ وَتَهَجُّلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

محمد اور ریاضت محمد صلی اللہ علیہ

وَسَلْمُ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ ثَنَاءِ مُحَمَّدٍ

وسلم یا الہی ! بحرمت تعریف محمد

وَلِثَوَابِ مُحَمَّدٍ وَثَمَاتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اور ثواب محمد اور طہارت محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ جَلَالِ

اللہ علیہ وسلم یا الہی ! بحرمت بزرگی

مُحَمَّدٍ وَجَمَالِ مُحَمَّدٍ وَجَلِ مُحَمَّدٍ

محمد اور جلال محمد اور شرافت محمد

وَوَجْهَةً مُحَمَّدٍ وَجَعَدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

چہرے محمد اور گیسو محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ حُسْنِ

اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت حسن

مُحَمَّدٍ وَحَسَنَاتِ مُحَمَّدٍ وَحُرْمَةِ

محمد اور نیکیاں محمد اور عزت

مُحَمَّدٍ وَحَالِ مُحَمَّدٍ وَحُلِيَّةِ مُحَمَّدٍ

محمد اور کیفیت محمد اور حلہ محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت

خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَخُلُقِ مُحَمَّدٍ وَخُطْبَةِ

خلاقت محمد اور اخلاق محمد اور خطابت

مُحَمَّدٍ وَخَيْرَاتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

محمد اور خیرات محمد صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ دِينِ مُحَمَّدٍ وَ

وسلم یا الہی بحزمت دین محمد اور

دِيَانَةِ مُحَمَّدٍ وَدَوْلَةِ مُحَمَّدٍ وَ

دیانت محمد اور دولت محمد اور

دَرَجَاتِ مُحَمَّدٍ وَدُعَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

درجات محمد اور دعاء محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ

اللہ علیہ وسلم یا الہی بحزمت

ذَاتِ مُحَمَّدٍ وَذِكْرِ مُحَمَّدٍ وَذَوْقِ

ذات محمد اور ذکر محمد اور ذوق

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی

بِحُرْمَتِ رُوحِ مُحَمَّدٍ وَرَأْسِ مُحَمَّدٍ

بحزمت روح محمد اور سر محمد

وَرِزْقٍ مُّحَمَّدٍ وَرَفِيقٍ مُّحَمَّدٍ وَرِضَاءٍ

و رزق محمد اور دوست محمد اور رضاء

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی

بِحُرْمَتِ زُهْدِ مُحَمَّدٍ وَنَرَاهَادَةِ

بحرمت زہد محمد اور عبادت

مُحَمَّدٍ وَزَارِعِي مُحَمَّدٍ وَنَرِيْنَةِ

محمد اور گریہ زاری محمد اور زیب وزینت

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی

بِحُرْمَتِ سِيَادَةِ مُحَمَّدٍ وَسَعَادَةِ مُحَمَّدٍ

بحرمت سرداری محمد اور نیک بختی محمد

وَسُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَسِيرِ مُحَمَّدٍ وَسَلَامِ

اور سنت محمد اور رازداری محمد اور سلامتی

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی

بِحُرْمَتِ شَرِيعِ مُحَمَّدٍ وَشَرَفِ مُحَمَّدٍ

بحرمت شریعت محمد اور عظمت محمد

وَشَوْقِ مُحَمَّدٍ وَشَادِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

اور شوق محمد اور خوشی محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ صِدْقِ

علیہ وسلم یا الہی ! بحرمت سچائی

مُحَمَّدٍ وَصَوْمِ مُحَمَّدٍ وَصَلَاةِ مُحَمَّدٍ

محمد اور روزہ محمد اور نماز محمد

وَصَفَاءِ مُحَمَّدٍ وَصَبْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اور صفائی محمد اور صبر محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ ضِيَاءِ

اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت چمک

مُحَمَّدٍ وَضَمِيرٍ مُحَمَّدٍ وَضَحَاءِ

محمد اور سوچ محمد اور قربانی

مُحَمَّدٍ وَضُعْفٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

محمد اور ضعیفی محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ طَلْعَةِ

علیہ وسلم یا الہی ! بحرمت آمد

مُحَمَّدٍ وَطَهَارَةِ مُحَمَّدٍ وَطَهْرِ مُحَمَّدٍ

محمد اور طہارت محمد اور نفاست محمد

وَطَرِيقِ مُحَمَّدٍ وَطَوَافِ مُحَمَّدٍ

اور طریقے محمد اور طواف محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت

ظَاهِرِ مُحَمَّدٍ وَظَهْرِ مُحَمَّدٍ وَظِلِّ

ظاہر محمد اور پشت مبارک محمد اور سایہ رحمت

مُحَمَّدٍ وَظُهُورِ مُحَمَّدٍ وَظُفْرِ مُحَمَّدٍ

محمد اور ظہور محمد اور کامیابی محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت

عِشْقِ مُحَمَّدٍ وَعَرَافَاتِ مُحَمَّدٍ وَعِلْمِ

عشق محمد اور پہچان محمد اور علم

مُحَمَّدٍ وَعُلُومِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيمِ مُحَمَّدٍ

محمد اور بلندی محمد اور معرفت محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت

عُرْبِيَّتِ مُحَمَّدٍ وَغَارِ مُحَمَّدٍ وَغَرَّةِ

عربیت محمد اور گوشہ نشینی محمد اور چمک

مُحَمَّدٍ وَغَيْرِيَّتِ مُحَمَّدٍ

محمد اور غیرت مندی محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی !

بِحُرْمَتِ قُلِّ مُحَمَّدٍ وَقَدْرِ مُحَمَّدٍ وَ

بحرمت اور شان محمد اور شان محمد اور

قَنَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَقُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

کفایت شعاری محمد اور قوت محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ فَخْرِ

علیہ وسلم یا الہی ! بحرمت فخر

مُحَمَّدٍ وَفَقْرِ مُحَمَّدٍ وَفِرَاقِ مُحَمَّدٍ

محمد اور فقر محمد اور ترک دنیا محمد

وَفَضْلِ مُحَمَّدٍ وَفَضِيلَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اور فضل محمد اور فضیلت محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ كَلَامِ

اللہ علیہ وسلم یا الہی ! بحرمت کلام

مُحَمَّدٍ وَكَشَفِ مُحَمَّدٍ وَكُوشِشِ مُحَمَّدٍ

محمد اور کشف محمد اور کوشش محمد

وَكِتَابِهِ مُحَمَّدٍ وَكُنْيَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اور کتابت محمد اور کنیت محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ لَيْلِ

اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت عبادت شب بیداری

مُحَمَّدٍ وَوِلْيَاةِ مُحَمَّدٍ وَوَلِيَاةِ مُحَمَّدٍ

محمد اور زیارت محمد اور قابلیت محمد

وَمُجَاهَدَاتِ مُحَمَّدٍ وَمُشَاهَدَاتِ

اور مجاہدات محمد اور مشاہدات

مُحَمَّدٍ وَمُلَاحِظِ مُحَمَّدٍ وَمَسَاحَةِ

محمد اور ملاحظت محمد اور سخاوت

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی!

بِحُرْمَتِ نَازِ مُحَمَّدٍ وَنَمَازِ مُحَمَّدٍ

بِحُرْمَتِ نَازِ مُحَمَّدٍ اور نَمَازِ مُحَمَّدٍ

وَنَصِيرِ مُحَمَّدٍ وَنَقِيرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اور مددگارِ مُحَمَّدٍ اور دعوتِ دینِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ وَرُودِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ تَشْرِيفِ آوَرِي

مُحَمَّدٍ وَقَاءِ مُحَمَّدٍ وَوَجُودِ مُحَمَّدٍ

مُحَمَّدٍ اور پاکیزگیِ مُحَمَّدٍ اور وجودِ مُحَمَّدٍ

وَوِدْيَعِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور امانتِ داریِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ هِمَّةِ مُحَمَّدٍ وَهِدَايَةِ

يَا إِلَهِي! بِحُرْمَتِ پختہ ارادےِ مُحَمَّدٍ اور ہدایتِ

مُحَمَّدٍ وَهِدْيَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مُحَمَّدٍ اور طریقےِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي يَا رَبِّي مُحَمَّدٍ وَيَكَانِيكَ

وسلم یا الہی! یا رب محمد اور دوستی

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کوئی

اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عبادت کے لائق اللہ کے سوا محمد اللہ کے رسول

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ

ہیں صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم بعد

مَا هُوَ الْمَكْتُوبُ فِي نَوْحٍ وَالْقَلَمِ

اس تعداد کے مطابق جو لوح و قلم

فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ وَنَفْسٍ وَ

میں کسی ہوتی ہے ہر دن اور رات میں اور ساعت میں اور

الْمُحَيَّةِ أَلْفٍ مِائَةِ أَلْفٍ مَرَّةٍ

سائس میں دس کروڑ مرتبہ یوم علم یعنی قیامت تک آگاہ ہو

إِلَى يَوْمِ الْعِلْمِ إِلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ

کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ تو خوف طاری ہو

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

گا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ○

تیری رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

درود قبرستان

درود قبرستان ایک ایسا درود ہے جس کے پڑھنے سے فوت شدہ حضرات کو عالم برزخ میں بہت فائدہ پہنچتا ہے لہذا یہ درود مردوں کے لئے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے فوت شدہ ماں باپ بخشے جائیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف کرے تو اسے چاہئے کہ ۴۱ روز ماں باپ کی قبروں پر جا کر اس درود کو روزانہ صبح کے وقت ۴۱ مرتبہ پڑھے اور بعد میں اللہ کے حضور ان کی مغفرت کی دعا کرے انشاء اللہ دعا قبول ہوگی اور اللہ ان

کی بخشش کر دے گا اور عالم برزخ میں ان کی قبر کو مثل جنت بنا دے گا۔ اس درود کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قبرستان میں اسے پڑھنے سے روحوں کو عذاب سے نجات ملتی ہے لہذا جب کوئی قبرستان میں زیارت قبور کے لئے جائے تو اسے چاہئے کہ وہاں ایک مرتبہ یہ درود پڑھے۔

اگر کوئی شخص اس درود شریف کو قبرستان میں تین دفعہ پڑھے تو اس کی برکت سے ان مردوں سے اللہ تعالیٰ ستر سال کے لئے عذاب اٹھالیتا ہے۔ چار دفعہ پڑھنے سے قیامت تک کا عذاب اٹھالیا جاتا ہے چوبیس دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ قیامت تک اس کے والدین کی زیارت کرتے رہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ مَا دَامَتِ الصَّلٰوَةُ

اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک نماز باقی ہے اور درود

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَتِ الرَّحْمَةُ

بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک رحمت باقی ہے اور

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَتِ الْبَرَكَاتُ

دُرود بھیج اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک برکتیں ہیں اور

وَصَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ وَ

دُرود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر درمیان روحوں کے اور

صَلِّ عَلَى صُورَةِ مُحَمَّدٍ فِي الصُّوَرِ وَ

دُرود بھیج اوپر صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صورتوں کے

صَلِّ عَلَى إِسْمِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْمَاءِ وَ

اور دُرود بھیج اوپر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ناموں میں دُرود

صَلِّ عَلَى نَفْسِ مُحَمَّدٍ فِي النَّفُوسِ وَ

بھیج اوپر نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نفسوں کے اور

صَلِّ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ وَصَلِّ

دُرود بھیج اوپر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دلوں کے اور دُرود

عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ وَصَلِّ عَلَى

بیچ اوپر قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قبروں کے، اور دُور و بیچ

رَوْضَةِ مُحَمَّدٍ فِي الرِّيَاضِ وَصَلِّ عَلَى

اوپر روضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان روضوں کے اور دُور

جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ وَصَلِّ

بیچ اوپر جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جسموں کے اور دُور

عَلَى تُرْبَةِ مُحَمَّدٍ فِي التُّرَابِ وَصَلِّ عَلَى

بیچ اوپر تربت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان خاک کے اور دُور و بیچ

خَيْرِ خَلْقِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ

اوپر اپنی مخلوق کے بہترین (فرد) ہمارے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر

وَاَصْحَابِهِ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَ

ان کی اولاد کے اور ان کے اصحاب پر ان کی ازواج پر اور ان کی ذریعات

اَهْلِ بَيْتِهِ وَاَحْبَابِهِ اَجْمَعِينَ ○

پر اور ان کے اہل بیت پر اور ان کے تمام احباب پر اور

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ۞

دُرود نازل کر اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

درود مدنی

یہ درود افلاس اور غربت دور کرنے کے لئے بہت اکیر ہے لہذا وہ شخص جس کی بیوی اور اولاد تنگ دستی اور فاقہ مستی کا شکار ہوں اسے چاہئے کہ وہ اس درود پاک کو بعد نماز فجر روزانہ ۱۰۰ مرتبہ پڑھے انشاء اللہ بہت جلد تنگ دستی سے نجات پا کر غنی اور دولت مند بن جائے گا۔ جو شخص اس درود پاک کو جمعہ کی رات کو تہجد کے وقت ۳۱۳ مرتبہ پڑھے اور سات جمعہ رات تک یہ عمل جاری رکھے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی غم زدہ اور پریشان حال اس درود پاک کو نماز جمعہ کے بعد سو مرتبہ پڑھے تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس درود پاک میں حضور ﷺ کی ازواج مطہرات اور آپ ﷺ کی آل کا ذکر ہے اس لئے اسے درود مدنی کہا گیا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اے اللہ درود و سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد ﷺ

مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ

پر جو نبی امی ہیں اور آپ کی ازواج پر جو

الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ صَلَوَاتٍ

مسلمانوں کی مائیں ہیں اور ان کی اولاد اور ان کے اہل بیت پر

وَسَلَامًا مَّا لَا يُحْصَى عَدَدُهُمَا وَلَا

ایسا درود و سلام کہ نہ شمار کیا جاسکے ان کا عدد اور

يَقْطَعُ مَدَدُهُمَا ۝

نہ ختم ہو ان کی زیادتی

درود شفاعت

یہ درود بھی دوسرے تمام درود پاک کی طرح حضور ﷺ کی

شفاعت کے لئے بہت مجرب ہے لہذا جو شخص ہر نماز کے بعد اسے

امرتبہ پڑھے اس کے لئے روز قیامت کو حضور ﷺ کی شفاعت

واجب ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر کوئی اہل معرفت مقام بقا حاصل کرنے کے بعد اس درود پاک کو رات دن کثرت سے پڑھنا شروع کر دے تو اس کی ذات سے دوسروں کو فیض پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص شب برات میں اس درود پاک کو اکیس ہزار مرتبہ پڑھے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو گا اور اگر کوئی شخص زیارت النبی ﷺ کے لئے اس درود پاک کو سو لاکھ مرتبہ ۴۰ دن میں پڑھے تو وہ انشاء اللہ زیارت سے مشرف ہو گا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی حَبِیْبِكَ

اے اللہ درود و سلام اور برکت بھیج اپنے حبیب شفیع المنین

شَفِیْعِ الْمُدْنِیِّیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِمْ وَاصْحَابِهِمْ اَجْمَعِیْنَ

پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر

درود الفاتح

درود الفاتح ایسا درود ہے جس سے ہر بند چیز کھل جاتی ہے اور ہر کام میں فتح حاصل ہوتی ہے اسی لئے اسے درود فاتح کہا جاتا ہے۔

مولانا ابوالمقارب شیخ شمس الدین بن ابوالحسن، ابوالبکری فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول میں تھا اور ان کے طریقہ میں تھا اس درود پاک کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا درجہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجے طے ہوئے اور اسی درود کا ایک مرتبہ پڑھنا دس ہزار مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے کچھ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کا ایک مرتبہ پڑھنا چار ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ہے اور یہ عین ممکن ہے۔

حضرت ابوالمقارب فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کو جو شخص ۴۰ دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گناہ ہیں سب بخش دے گا۔

شیخ المشائخ حضرت محمد بکری فرماتے ہیں کہ صدق دل سے اس درود شریف کا زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھنا آخرت میں دوزخ کی آگ سے نجات دلا سکتا ہے۔ (سبحان اللہ)

حضرت سید احمد حلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو پسند تھا اور ان کا یہ

خاص درود تھا یہ درود شریف خاص الخاص عجائبات اور راز ہائے کا
حامل ہے اسے پڑھنے سے نور کے پردے کھلتے ہیں اور وہ نور پیدا ہوتا
ہے جس کی قدر دانی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا لہذا
اسے سو مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہئے۔

حضرت شیخ یوسف بن اسمعیلؒ فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف
کرامات کا موتی ہے۔ سید محمد الکبریٰؒ فرماتے ہیں کہ درود فاتح ایک
ایسا عجیب درود ہے جس کو میں نے ایک برس پڑھا حج کو گیا اور
آقائے نامدار علیہ السلام کی قبر کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور جب میں منبر
اور روضہ شریف کے بیچ والے حصے میں بیٹھ گیا تو حضرت رسول
کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور علیہ السلام نے شفاعت کا
وعدہ فرمایا اور فرمایا علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس درود کے ورد کے
باعث برکت دے اور تمہاری اولاد کی اولاد کو برکت دے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود اور سلام اور برکت بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم

الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ

پر جو ہر بند چیز کو کھولنے والے ہیں اور آپ سابقہ کی انتہا ہیں اور

النَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهُادِيَّ إِلَى

آپ حق کی حق کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں اور آپ صراطِ مستقیم کی

صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ہدایت کرنے والے ہیں اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور ان

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقٌّ قَدِيرًا

کے صحابہ پر عظیم قدر و منزلت کے

وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ ○

مطابق درود بھیج۔

درود مصطفیٰ

اس درود پاک کا عامل نیک صفات سے متصف ہو جائے گا۔ اور

کثرت سے پڑھنے والا رسول اکرم ﷺ کی محبت میں محو رہے گا اور

جو شخص صبح شام یا ہر نماز کے بعد اس درود شریف کی تلاوت کرتا

رہے وہ ذلت سے نکل کر عظمت میں آجائے گا۔ ادنیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے گا اگر کسی حاکم یا کسی افسر کے پاس جائے گا تو عزت پائے گا۔ اور اسے کثرت سے پڑھنے والے کا دل روشن ہو جاتا ہے اور اسے سچے خواب آنے لگتے ہیں خواب میں بزرگان اور جلیل القدر ہستیوں کی زیارت ہوگی اگر شدید قسم کے بیمار آدمی کے سرہانے اس دروپاک کو سو مرتبہ پڑھا جائے اور اس کے بعد نبی اکرم ﷺ کے واسطے سے اللہ کے حضور بیمار کی صحت یابی کی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی حَبِیْبِكَ

اے اللہ درود اور سلام اور برکت بھیج اپنے حبیب

المصطفیٰ وعلیٰ الہ وسلم ۝

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور سلامتی

درود قلبی

یہ درود بارگاہ رب العزت میں مقبول بندہ بننے کے لئے بہت

اکیس ہے جو شخص یہ چاہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو تو اسے چاہئے کہ اس درود شریف کو دن رات با وضو کر کثرت سے پڑھے انشاء اللہ درود شریف کی برکت سے اس کی ہر دعا قبول ہوگی جو شخص حج کے دنوں میں روضہ رسول ﷺ پر حاضر ہو کر ۸ دن تک یہ درود روزانہ ۱۱ مرتبہ پڑھے اسے قرب رسول ﷺ حاصل ہوگا۔ اس درود پاک کا ایک فائدہ یہ ہے اسے پڑھنے والے کا دل روشن ہو جاتا ہے اس کے قلب پر انوارات کی تجلی رہتی ہے اس کے علاوہ اس درود پاک کی برکت سے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی ہوتی ہے اور پڑھنے والے کی دین و دنیا سنور جاتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی بری عادت میں مبتلا ہو اور اسے چھوڑتا ہو مگر وہ نہ چھوڑتی ہو تو اسے چاہئے کہ اس درود پاک کو ۱۱ مرتبہ صبح اور ۱۱ مرتبہ شام پڑھے انشاء اللہ بری عادت ختم ہو جائے گی اور پڑھنے والا ظاہری گناہوں سے پاکیزہ ہو جائے گا۔ اس درود سے آخرت میں نبی اکرم ﷺ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی شَفِیْعِ الْمُدْنِیْنَ سَيِّدِنَا

یا اللہ! شفیع المدنیین سیدنا اور

وَمَوْلَانَا وَمُرْشِدِنَا وَرَاحَةَ قُلُوبِنَا

ہمارے مولانا اور ہمارے مرشد اور ہمارے دلوں کی

وَطَیْبِ ظَاہِرِنَا وَبَاطِنِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

راحت اور ہمیں ظاہر اور باطن میں پاکیزہ کرنے والے محمد

عَلٰی اِلَیْهِ وَاَصْحَابِہٖ وَاَزْوَاجِہٖ وَاٰلِہٖ

صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر اور ان کی ازواج

اٰہْلِ بَیْتِہٖ وَاَوْلِیَآءِ اُمَّتِہٖ وَاٰہْلِ

پر اور آپ کے اہل بیت پر اور اولیاء امت پر اور

طَاعَتِكَ اَجْمَعِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ط

تمام اہل اطاعت پر یوم قیامت تک رحمت نازل فرما

درود اول و آخر

وہ شخص جو ایام جوانی میں خدا کو بھولا رہا اور عمر کا بیشتر حصہ گناہوں میں گزر گیا یعنی جب انسان کی عمر اختتام کے قریب ہو گناہوں کی کثرت ہو موت قبر اور حشر کا خوف دامن گیر ہو تو وہ اس درود پاک کو دن رات کثرت سے پڑھنا شروع کر دے انشاء اللہ حق تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور بقیہ زندگی میں اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے گا اور اس کے علاوہ اسے پڑھنے والے کو اللہ بے انداز قوت عطا کر دیتا ہے اس لئے اس کے عمل سے دشمن ہمیشہ مغلوب ہو جاتے ہیں لہذا اگر کسی کو کوئی دشمن بلا وجہ تنگ کرتا ہو تو وہ سات جمعہ کو بعد نماز جمعہ ۱۱ مرتبہ پڑھے انشاء اللہ دشمن مغلوب ہو جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَىٰ حَبِیْبِهِ الْاَكْرَمِ الْاَوْلٰیْنِ

اے اللہ اپنے اقل اور آخر معزز حبیب پر اور ان کی آل پر

وَالْاٰخِرِیْنِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ

اور ان کے صحابہ پر درود برکت

وَبَاۤسِرٍ كَسَلِمٌ

اور سلام بھیج۔

درودِ اول

یہ درود شریف دین و دنیاوی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے والا ہر برائی سے چھوٹ جاتا ہے اور ہر عبادت کا لطف آنے لگتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو اس درود شریف کو کثرت سے پڑھے۔ کثرت سے پڑھنے والا اللہ کے پاس اول صف میں داخل ہوگا۔ اس لئے اس درود شریف کا نام درودِ اول ہے۔

حدیث نبوی ﷺ ہے کہ مجھ ﷺ پر درود بھیجنا تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے۔ مطلب یہ کہ درود شریف پڑھنا وہ عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور جو شخص درود شریف نہ پڑھے اور اپنے نبی پاک ﷺ کا نام نامی آنے پر ﷺ یعنی درود شریف نہ کہے اور اپنے نبی کریم ﷺ سے بغض رکھے تو لازم وہ شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پائے گا اور یہ بات اس حدیث نبوی ﷺ سے یوں ثابت ہے کہ ایک شخص نے ایک ہرنی شکاری اور وہ اسے پکڑ کر لے جا رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم ﷺ کے پاس سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے ہرنی کو قوت گویائی عطا فرمائی تو ہرنی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میرے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں اور اس وقت وہ بھوکے ہیں۔ لہذا آپ ﷺ شکاری کو ارشاد فرمائیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ شاہ کونین ﷺ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ ہرنی نے جواب دیا۔ اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو جیسے اس شخص پر اللہ

کی لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ ﷺ کا ذکر پاک ہو اور وہ آپ ﷺ پر درود پاک نہ پڑھے یا جیسے اللہ کی لعنت اُس شخص پر ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور دعائے مانگے۔ پھر نبی کریم ﷺ نے اس شکاری کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو میں ﷺ اس کا ضامن ہوں اُس نے ہرنی کو چھوڑ دیا ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آگئی۔ یہ دیکھ کر وہ کافر شکاری مسلمان ہو گیا۔

(القول البدیع، صفحہ 148، نزلہ المجالس)

پس اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور درود شریف نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی لعنت اور ناراضگی ملتی ہے۔ اسلئے میرے مسلمان بھائیو! جب بھی نبی کریم ﷺ اور حیم ﷺ کا ذکر ہو اور نبی پاک ﷺ کا نام نامی آئے تو ضرور بہ ضرور ﷺ کہہ کر درود شریف پڑھو اور اپنے نبی کریم ﷺ اور حیم ﷺ سے زیادہ سے زیادہ محبت کرو۔ درود اول اللہ اور اللہ کے حبیب ﷺ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو کوئی بعد از نماز فجر یہ درود شریف سو بار پڑھے گا دین اور دنیا میں کامیابی پائے گا۔ بعد از نماز عشاء تین سو تیرہ بار پڑھنے سے جو چاہے وہ مل سکتا ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے پانچ سو بار پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل آسان ہو جائے گی اور روزانہ تہجد پڑھنے سے پہلے جو کوئی شخص یہ درود شریف ایک ہزار بار پڑھنے کی عادت ڈال لے تو انشاء اللہ! دوزخ سے نجات اور جنت پائے گا یہاں بھی یہ درود شریف اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا گیا ہے ورنہ اس سے پہلے کسی کو بھی اس درود شریف کا پتہ نہ تھا بڑا بابرکت درود شریف ہے

کوئی بھی جائز سوال انشاء اللہ روشہ ہوگا۔ دعا واپس نہیں تویں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پرہنے والوں کو بہت اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ

اے اللہ! درود بھیج اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے بیویوں میں

اَنْبِيَاۡئِكَ وَاَكْرَمِ اَصْفِيَاۡئِكَ مَنْ

افضل ہیں اور تیرے برگزیدہ بندوں میں سب سے زیادہ بزرگ ہیں جن کے

فَاَصَتْ مِنْ نُوْرِهِ جَمِيْعِ الْاَنْوَارِ وَصَاحِبِ

نور سے تمام نور ظاہر ہوتے ہیں اور وہ معجزات والے ہیں

الْمُعْجَزَاتِ وَصَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ

اور مقام محمود والے ہیں اور اولین اور

سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ○

آخرین (سب) کے سردار ہیں۔

درود محمدی ﷺ

ایک ایسا درود ہے جو ہر کام کے حل کے لئے عجیب طاقت رکھتا ہے۔ درود محمدی ﷺ کے راز کو اب تک کوئی نہیں جان سکا۔ آج تک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو طاقت نہیں کہ اس درود شریف کے فوائد اور فضائل بیان کر سکے۔ حضور اکرم ﷺ کے اپنی امت پر ایک نہیں بلکہ کڑوروں احسانات ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ کہ ہم بدکار اور گنہگار اور غافل ہو کر سستی اور کاہلی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر ہمارے آقا ﷺ اب بھی ہر وقت بارگاہ خداوندی میں اپنی گنہگار امت کے بخشوانے کے لئے کوشاں ہیں۔

اگر دن میں اس پیارے نبی ﷺ پر جن کے احسانوں کے بوجھ کے نیچے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایک درود شریف پڑھنے والے پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے دس درجے بلند کرتا ہے اسکے اعمال میں دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اسکے دس گناہ مٹا دیتا ہے۔ ہر عبادت چاہے وہ فرض ہو یا نفل اس کے بدلے ہمیں صرف نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے قرآن پاک کے ہر ایک لفظ کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن درود شریف وہ واحد عبادت ہے جس کے بدلے میں دس نیکیاں بھی ملتی ہیں اور دس گناہ بھی مٹا دیئے جاتے ہیں۔ دس درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں بھی ملتی ہیں۔ درود شریف کے علاوہ ایسی کوئی بھی عبادت نہیں جو نیکیاں بھی دلائے اور گناہ بھی مٹائے۔ درجے بھی بلند کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی دلائے۔ ایسے ہی ایک

بزرگ جن کا نام ابوالحفض کاغذی رحمۃ اللہ علیہ ہے ان کے فوت ہو جانے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا۔ خواب دیکھنے والے نے دوبارہ سوال کیا، کس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ انعامات حاصل ہوئے تو آپ نے فرمایا جب میں دربار الہی میں حاضر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کے گناہ شمار کرو چنانچہ فرشتوں نے میرے نامہ اعمال سے میری صغیرہ کبیرہ غلطیاں، بغز شیں، گناہ سب گن کر دربار الہی میں پیش کر دیں۔

تب فرمان الہی ہوا کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں میرے حبیب ^{صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم} پر جتنا درود پاک پڑھا ہے وہ بھی شمار کرو۔ جب فرشتوں نے درود پاک شمار کیا تو گناہوں کی نسبت درود پاک تعداد میں زیادہ نکلا تو مولا کریم جل جلالہ نے فرمایا اے فرشتو! میں نے اس کا حساب معاف کر دیا ہے۔ لہذا اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں لے جاؤ۔ (القول البدیع ۱۱۸ سعادت الدارین ۱۲۰)

سبحان اللہ! کثرت درود شریف نے ان کو جنت کا حق دار بنا دیا۔ درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لئے ہمیں ہر وقت، ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے وقت، سوتے وقت، فالتو وقت میں، زوال کے وقت میں بھی، محفل میں، مجلس میں، ہر سانس کے ساتھ الغرض جب بھی موقع ملے درود شریف کا ورد کرتے ہی رہنا چاہئے شاید اسی طرح ہمارا درود شریف بھی گنتی کے لحاظ سے گناہوں سے بڑھ جائے اور اللہ

تعالیٰ غفور و رحیم اپنے حبیب ﷺ کے ساتھ اپنی محبت کے صدقے میں ہی ہماری بھی بخشش اور مغفرت کر دے اور ہم بھی نبی پاک ﷺ کی محبت کے صدقے میں بلا حساب و کتاب جنت حاصل کر لیں۔ (آمین ثم آمین)

حدیث نبوی ﷺ سے مجھ ﷺ پر درود بھیجنا تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے

بڑھ گئی صرف گنتی ملی اُسے جنت

اے بندے! تجھے اور کیا چاہئے

خدا کی رضا درود ہی میں تو ہے

اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا چاہئے

تخلیق:- میاں عبدالعلی عابد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ اور حضرت محمد ﷺ

اِلٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ

کی اولاد پر جو تیرے بندے اور تیرے رسول

النَّبِيِّ الْاَوْفِيِّ بَعْدَ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ

ہیں نبی الای ہیں اس مقدار میں کہ تعداد ہو اتنی جتنی مخلوق

صَلٰوَةٌ دَائِمَةٌ يَدَّوَامِ خَلْقِ اللّٰهِ

سانس لیتی ہے درود اتنا جب تک قائم رہے اللہ کی مخلوق

درود چھ لکھی

اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ اسے درود سعادت بھی کہتے ہیں۔ درود چھ لکھی کا ثواب چھ لاکھ اس لئے مشہور ہے کہ ایک بہت بڑے عاشق رسول جن کا نام حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہے انہوں نے فرمایا ہے اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہیں جن کو جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں 75 بار نبی پاک ﷺ کی زیارت حاصل ہوئی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو خواب میں نبی پاک ﷺ کی زیارت حاصل ہوتی ہے۔ مگر جن کو جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں دیدار نصیب ہو ظاہر ہے یہ مقام اونچے درجوں میں بہت ہی اونچے درجے کا مقام ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی خود فرماتے ہیں ”میں اب تک بیداری کی حالت میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی زیارت سے 75 بار نوازا گیا ہوں اور جن احادیث مبارکہ کو محدثین نے ضعیف کہا میں ان کے بارے میں رسول اکرم ﷺ سے پوچھ لیا کرتا تھا۔ (میزان کبریٰ ۱/ ۴۲)

اس لئے اتنی اونچی ہستی کا کہا کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کوئی بھی اس درود شریف کو ایک بار پڑھے لازم اس کو چھ لاکھ درود شریف کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور جو شخص جمعہ کو دو ہزار بار پڑھے اس کا شمار دونوں جہانوں کے سعادت مند لوگوں میں ہونے لگے گا۔ یہ درود شریف چھوٹا بھی ہے اور کثرت سے پڑھنے میں آسان بھی ہے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمٍ

یا اللہ ہمارے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اس تعداد کے

اللّٰهُ صَلِّوْا دَائِمَةً اَبَدًا وَاِمْلِكِ اللّٰهُ ط

مطابق جو تیرے علم میں ہے ایسا درود جو اللہ تعالیٰ کے دائمی ملک کے ساتھ دوامی ہے

درود قرآنی

اس درود پاک کے الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ اے اللہ قرآن پاک کے الفاظ کے برابر نبی اکرم ﷺ پر صلوة بھیج اس لئے اسے قرآنی درود کہا جاتا ہے۔ اس درود کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہوتی ہے کیونکہ اس درود کے ساتھ اللہ کی رحمت کا خاص دخل ہے۔ اگر بارش نہ ہوتی ہو تو علاقہ کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہو کر اجتماعی صورت میں شماروں پر سو الاکھ مرتبہ یہ درود پڑھیں اور اس کے بعد بارش کی دعائیں انشاء اللہ تعالیٰ بارگاہ رب العزت میں دعا قبول ہوگی اور رحمت ربی کا بادل آسمانوں پر چھا کر برسات شروع کر دے گا۔

اس درود پاک کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں حب رسول ﷺ بہت بڑھ جاتی ہے اور حضور ﷺ کی ذات گرامی سے کمال محبت نصیب ہوتی ہے جو شخص اسے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے وقت اور ختم کرتے وقت سات سات مرتبہ پڑھے وہ ہمیشہ خوشحال اور پرسکون رہے گا اس کے علاوہ صبح و شام اسے تین مرتبہ پڑھنا گھر میں خیر و برکت اور اتفاق کا موجب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ

اے اللہ درود بھیج اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی اولاد کے

بَعْدَ مَا فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ حَرْفًا حَرْفًا

اور ان کے دوستوں کے مطابق قرآن کے حروف کی تعداد کے اور ہر ہر

وَيَعْدَدُ كُلَّ حَرْفٍ اَلْفًا اَلْفًا

حرف کے بدلے ایک ایک ہزار کے عدد کے مطابق

درود حصول رحمت

یہ درود اللہ کو راضی کرنے کے لئے بہت بہتر ہے لہذا جو شخص

اسے روزانہ پڑھنے کا معمول بنالے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور اسے نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسا نیک کام سرانجام دینے کی توفیق دے گا جو تاقیامت رہے گا جس سے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جو شخص اس درود شریف کو روزانہ چند بار پڑھنے کا معمول بنالے اس کا حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ایک خاص تعلق اور رابطہ پیدا ہو جائے گا۔ جس کی بدولت بے پناہ دینی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ درود دل کی میل کچیل کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جس طرح صابن کپڑے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَوةً دَائِمًا وَسَلِّمْ سَلَامًا

اے اللہ درود بھیج ابدی درود بھیج اور ابدی سلام بھیج اپنے حبیب اور

أَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ وَسَيِّدِ النَّبِيِّينَ وَآلِهِ

انبیاء کے سردار پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

پر پس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں

درود لافانی

نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج۔ ہم پر فرض ہیں اور یہ حکم قرآن بھی ہے مگر قرآن پاک میں ان کو ادا کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ”ہم یہ فرض کس طرح ادا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس طرح میں ﷺ ادا کرتا ہوں یعنی آقا ﷺ کی اتباع کرنے اور آپ ﷺ کی فرمانبرداری کر کے ہم ان فرضوں کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ سنت رسول ﷺ ہے۔ مگر ان کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی یا غفلت ہو جائے تو عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور نامنظور۔ نامنظور۔ نامنظور۔ جیسے اگر نماز خشوع سے نہ پڑھی جائے تو منہ پر مار دی جائے گی وغیرہ۔ مگر درود شریف پڑھنا ہمارے لئے وہ واحد عبادت ہے جو سنت اللہ تعالیٰ ہے اور سنت اللہ تعالیٰ جس طرح مرضی پڑھو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر حالت میں قبول ہے۔ قبول ہے۔ قبول ہے۔ پس درود شریف وہ واحد ایسا عمل ہے جو دنیا فنا ہونے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ کیونکہ درود شریف سنت اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے۔ درود شریف جاری رہے گا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ تَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ اِذْ خَلَقْتَ لِيْ

اے اللہ تو درود سلام بھیجتے رہنا محمد ﷺ پر جب تیری مخلوق فنا ہو جائے گی

درود نوری

درود نوری پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دل پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ بلکہ کثرت سے پڑھنے سے اس کا شمار اولیاء اللہ میں ہونے لگتا ہے۔ حصول ولایت کا خواہش مند شخص اس درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھے تو ظاہری آنکھ سے پوشیدہ اشیاء کھل کر سامنے آجائیں گی نور الہی کا جلوہ نظر آنے لگے گا لہذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس درود شریف کے ایک ایک حرف میں نور کے سمندر سمائے ہوئے ہیں۔ اس درود شریف کے پڑھنے والے پر اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پڑھنے والے کو ایک ہی دن میں ابرار بنا دے یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جتنی بڑی سے بڑی رحمت سے نواز دے اس لئے اس درود شریف کو پڑھنے والا کبھی رحمت خداوندی سے خالی یا محروم نہیں رہ سکتا۔ لہذا ہر شخص کو چاہئے کہ اس درود پاک کو خاص طور پر کثرت سے پڑھے۔ صبح و شام گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنے سے دین و دنیا میں فلاح حاصل ہوگی اگر کوئی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ روزانہ اس درود شریف کو پڑھتا رہے تو وہ ہمیشہ آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رہے گا اگر کسی کے اہل و عیال نیکی کے راستے پر گامزن نہ ہوں اور فرمانبرداری نہ کرتے ہوں تو اس درود پاک کو ہر جمعرات بعد نماز عشاء گیارہ جمعرات تک ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے سے ان کی اصلاح ہو جائے گی، اپنے نفس کی اصلاح کیلئے بھی اس درود پاک کو بعد نماز فجر ۷ مرتبہ پڑھنا بہت مجرب ہے۔

يَا نُورُ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ

اے نور درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نوروں

الْاَنْوَارِ وَسِرِّ الْأَسْرَارِ وَسَيِّدِ الْأَنْبَارِ

کو نور ہے جو اسراروں کا سر ہے اور جو ابراروں کا سردار ہے اور

وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الْمُنَوَّرِينَ وَبَارِكْ

ان کی آل پر اور اصحاب پر جو منور ہیں اور برکت و

وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ نَوْمًا بِهَا سِرِّي وَسِرِّي تِي

سلام بھیج اے اللہ منور کر دے میری روح اور جسم کو

وَبَصْرِي وَبَصِيرَتِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَعِيَالِي

اور میری آنکھوں کو اور میری بصیرت کو اور میرے دین اور دنیا

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

کو اور میرے اہل و عیال کو روز قیامت تک

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درود شریف

حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تورات میں ”اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ! نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ ﷺ پر کثرت سے درود پڑھا کرو“ آپ فرماتے ہیں تب سے میں درود شریف کثرت سے پڑھنے لگ گیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ

ابنی! ہمارے آقا محمد ﷺ پر درود بھیج جو سب نبیوں میں آخری ہیں

وَمَعْدِنِ الْاَسْرَارِ وَمَلْبَعِ الْاَنْوَارِ وَجَمَالِ

اسرار کی کان اور انوار کا منبع ہیں دو جہاں کا

الْكُوْنِيْنَ وَشَرْفِ الدَّارِيْنَ وَسَيِّدِ

حسن اور دونوں جہان کی برگی ہیں جنوں اور انسانوں

الثَّقَلَيْنِ الْمَخْصُوْصِ بِقَابِ قَوْسَيْنِ

کے سردار اور قاب قوسین (مقدار دو کمانوں کی) کے مقام قرب کے لائق ہیں

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درود شریف

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے تو میں اپنی کل عبادت درود شریف پڑھنے کو پہنچاؤں "درود شریف پڑھنا مشکلات و آفات سے نجات کا سبب ہے جو شخص اس درود شریف کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست رکھتا ہے ہر مشکلات میں اسکی غیبی مدد کرتا ہے دین و دنیا کی مشکلات اُسکے لیے آسان کر دی جاتی ہیں

اور اسے دیدار مصطفیٰ ﷺ نصیب ہوتا ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَاَنْبِيَآئِهِ وَاٰلِهِ

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے نبیوں اور

رُسُلِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

اس کے رسولوں اور انکی ساری مخلوق کے درود محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ پر

وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

ہوں آپ ﷺ پر اور ان پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں

حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا درود شریف

یہ درود شریف اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ﷺ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ درود شریف دین و دنیا اور عاقبت سنوارنے کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کی شان اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے ثواب کو اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ رُوحُهُ مُخْرَابُ الْأَرْوَاحِ

اہلی ادوار بھیج اس ذات پر جن کی روح، طاقت اور ساری

وَالْمَلَائِكَةُ وَالْكَوْنُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ

کائنات کی روح کی مخراب ہے اہلی ان پر درود بھیج جو نبیوں اور

إِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

رسولوں کے امام ہیں اہلی ان پر درود بھیج جو

مَنْ هُوَ إِمَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عِبَادِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ

اہل جنت، اللہ کے مومن بندوں کے امام ہیں

درود انعام

اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس پر ہمیشہ اللہ کی رحمت رہے اور دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز رہے تو اسے چاہئے کہ درود انعام کو کثرت سے پڑھے۔ بے اولاد حضرات کو چاہئے کہ ہر جمعہ کے بعد 111 مرتبہ یہ درود شریف مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں۔ بعد وظیفہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعائے انشاء اللہ دعا قبول ہوگی۔ فوت شدہ افراد کی قبر میں راحت کیلئے 40 دن تک اس درود شریف کو روزانہ 1500 بار پڑھ کر ایصالِ ثواب کریں۔ انشاء اللہ قبر مثل جنت ہوگی اور عذابِ قبر سے محفوظ ہو جائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اے اللہ! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج اتنا جتنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ عَدَدَ اَنْعَامِ اللّٰهِ وَاَفْضَالِهِ

کہ تیرا انعام اور بے شمار فضل و کرم ہے

درود حفاظت

عبادت الہی میں مشغول شخص پر فتنے اور آزمائشیں بکثرت وارد ہوتی ہیں۔ اس درود شریف کے ورد کرنے والے پر کوئی فتنہ اور ابتلا نہیں آتا کیونکہ حفاظت الہی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لئے جب ذکر کرنے بیٹھا جائے تو پہلے ایک بار یہ درود شریف پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اے اللہ درود بھیج حضرت محمد ﷺ پر اور ہمارے آقا محمد ﷺ کی اولاد پر

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهٖ

بشمار اس کے جس کو تیرے علم نے احاطہ کیا ہے اور بشمار اس کے

عِلْمِكَ وَجَزَى بِهٖ قَلَمِكَ وَسَبَقَتْ

کہ تیرے قلم نے لکھا ہے اور بشمار اس کے

بِهٖ مَشِيئَتِكَ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُكَ

کہ پہلے ہو چکا ہے ساتھ اس کے ارادہ تیرا اور بشمار اس کے کہ

صَلٰوَةٌ دَائِمَةٌ يَّدُو اِمْرًا بِاَقِيَّتِهِ بِفَضْلِكَ

درود بھیجا ہے آنحضرت پر تیرے فرشتوں نے ایسا درود جو ہمیشہ رہنے والا ہے

وَ اِحْسَانِكَ اِلَى اَبَدٍ اِلَا اَبَدًا اِلٰى اَبَدٍ اِلٰى اَبَدٍ اِلٰى اَبَدٍ

تیرے دوام کے ساتھ باقی رہنے والا ہے تیرے فضل و احسان سے ابد الابد تک

لَا اَبَدٍ يَّتِيهِ وَلَا فَنَاءٌ لِّدِيْمُوْمِيَّتِهِ ○

کہ جس کی ابدیت کی کوئی حد نہیں اور جس کے دوام کو فنا نہیں

درودِ نعمتِ عظمیٰ

یہ درود شریف ایک طرح کا دریائے رحمت ہے اور اسے پڑھنے والا دریائے رحمت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پڑھنے والا اللہم صل کہتا ہے تو وہ اللہ کے فضل کے سمندر میں قدم رکھ دیتا ہے اور جب وہ نبی اکرم ﷺ کا نام لیتا ہے تو دریائے رسالت کی موجوں میں آجاتا ہے جس وقت وہ علی آلہ کہتا ہے تو اس پر اہل بیت جیسی عنایت ہونے لگتی ہے اور جب اعلیٰ صحابہ کہتا ہے تو اسے صحابہ جیسی خیر و برکت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس درود شریف کے پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ روح اور دل کو تروتازگی ملتی ہے۔ دلی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ اس درود شریف کو ہر نماز کے بعد کثرت سے پڑھیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سردار

اے سیدنا محمد وعلیٰ اصحاب

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

کے صحابہ پر درود برکت اور سلام بھیج

درودِ محبتِ الہی

درودِ محبتِ الہی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم ﷺ دونوں کی محبت بڑھتی اور دونوں کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ درود شریف گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی بھڑکتی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس درود شریف میں ہر قسم کی بیماری کی شفا ہے۔ مصیبت اور آفات جیسی بھی ہو اس درود شریف کو روزانہ ایک ہزار بار پڑھنے سے نجات مل جاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے خود فرمایا ”بیشک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے ﷺ کے سامنے کر دی ہے۔ میں ﷺ دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت کے دن تک اس میں ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میں ﷺ اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔“ (مواہب لدنیہ شرح للزرقانی ص 214، 7)

گویا کہ ہمارے ہر عمل کا نبی پاک ﷺ کو علم ہے۔ سعادت الدارین صفحہ 149 میں درج ہے حضرت ابوعلی قطان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا ساتھی تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں (معاذ اللہ) میں نے خواب میں کرخ کی جامع مسجد میں نبی پاک ﷺ کو دیکھا۔ میں نے رسول اکرم ﷺ کو سلام عرض کیا مگر نبی کریم ﷺ نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں تو حضور ﷺ کی ذات گرامی پر دن رات اتنا اتنا درود پاک پڑھتا ہوں لیکن آپ ﷺ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔

سن کر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تو مجھ ﷺ پر درود پاک پڑھتا ہے
 میں ﷺ درود شریف خود سنتا بھی ہوں اور تمہیں پہچانتا بھی ہوں۔ مگر تو میرے
 ﷺ کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی بھی کرتا ہے۔ یہ سن کر میں بہت شرمندہ
 ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں آپ ﷺ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں
 تب حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 پیارے بھائیو! اوپر والے دونوں واقعات کا ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ
 ہمارے نبی اکرم ﷺ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ہر حال سے واقف ہیں آپ
 ﷺ اب بھی اپنی امت کے لئے استغفار کر رہے ہیں اور ہم سب کا بھی یہ فرض ہے
 کہ ہم سب بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر آپ ﷺ کو اپنی محبت کا یقین
 دلائیں تاکہ آپ ﷺ خوش ہوں (آمین) درود محبتِ الہی پڑھنے کا ثواب اس قدر
 زیادہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کمپیوٹر اس کے ثواب کا حساب لگا ہی نہیں سکتا ثبوت کے
 طور پر اس درود شریف کے معنی یعنی ترجمہ ضرور پڑھیں۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ ہمارے آقا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر جتنی محبت تجھے

مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ حُبِّكَ فِيهِ ۝

آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے ہے اسی کے موافق درود و سلام بھیج

اللہ کی محبت جو نبی پاک ﷺ سے ہے اس کا حساب نہیں لگایا جاسکتا۔ درود شریف
 پڑھنے کا ثواب بھی اللہ کی محبت جتنا ہی ملے گا۔ اس کا بھی حساب نہیں لگایا جاسکتا۔

درود بلندی درجات

یہ درود بلندی درجات کا بہترین ذریعہ ہے جو شخص یہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اس کے لئے جو شخص اس مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنالے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کرتا جاتا ہے اور لوگوں میں عزت سے نوازتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اے اللہ درود و سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد ﷺ

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ہمارے آقا محمد ﷺ کی آل پر جو تیری سب مخلوق سے معزز ہیں

أَكْرَمِ خَلْقِكَ وَسِرَاجِ أُنْفُكِ وَ

اور تیرے انفق کے آفتاب ہیں اور تیرے حق کے قائم کرنے والوں

أَفْضَلُ قَائِمٍ بِحَقِّكَ الْمَبْعُوثِ بِتَيْسِيرِكَ

سے افضل ہیں اور بھیجے گئے ہیں تیری آسانی

وَرِفْقِكَ صَلَوةً يَتَوَالِي تَكَرَّارُهَا وَتَلَوُّهَا

اور نرمی کے ساتھ ایسا درود جو پے درپے دُہرایا جاتا رہے اور

عَلَى الْأَكْوَانِ الْنَّوَّاسِرِهَا ۝

چمکیں سب مخلوق پر اُس کے انوار

درود جمعہ

یہ درود جمعہ کے روز پڑھنے کے لئے خاص طور پر مخصوص ہے اس لئے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کھڑے ہو کر یہ درود پاک سو مرتبہ پڑھیں انشاء اللہ بے پناہ فوائد اور فیوض و برکات حاصل ہوں گے۔ اگر کوئی عورت اس درود پاک کو پڑھنا چاہے تو وہ بعد نماز ظہر گھر پر پڑھ لے اس درود پاک کے فوائد کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ تین ہزار رحمتیں اتارے گا۔ اس پر دو ہزار بار اپنا سلام بھیجے گا۔ پانچ ہزار نیکیاں اس کے نامہ

اعمال میں لکھے گا۔ اس کے پانچ ہزار گناہ معاف کرے گا۔ اس کے پانچ ہزار درجے بلند کرے گا۔ اس کے ماتھے پر لکھ دے گا کہ یہ منافق نہیں۔ اس کے ماتھے پر تحریر فرمائے گا کہ یہ دوزخ سے آزاد ہے۔ اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اس کے مال میں ترقی دے گا۔ اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت رکھے گا۔ دشمنوں پر غلبہ دے گا دلوں میں محبت رکھے گا۔ کسی دن خواب میں زیارت اقدس ﷺ سے مشرف ہو گا ایمان پر خاتمہ ہو گا۔ قیامت میں رسول اللہ ﷺ اس سے مصافحہ کریں گے۔ حضور پر نور ﷺ کی شفاعت اس کے لئے واجب ہو گی۔ بڑی خوبی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درود کی تمام اہل سنت کے لئے اجازت فرمائی ہے۔ بشرطیکہ بد مذہبوں سے بچیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ اس سے ایسا راضی ہو گا کہ کبھی ناراض نہ ہو گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ صَلَّى اللّٰهُ

لِ اللّٰهِ دَرُودٌ يَّبْحَثُ بِهَا نَبِيٌّ أُمَّيٌّ بِرِ اَنْ كِي آلِ پَر لَ اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوَةٌ وَسَلَامٌ مَّا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

دُرُودِ بِيحِجِّ ان پر اور سلام لے اللہ کے رسول آپ پر دُرُودِ اور سلام

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ مَقْبُولَةٌ تُؤَدِّي بِهَا

ہو لے اللہ دائمی دُرُودِ بِيحِجِّ جو تیری درگاہ میں مقبول ہو کثرت

عَنَا وَعَنْ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ حَقَّهُ الْعَظِيمَ وَ

کر اس کے ساتھ ان پر اور ان کی اہل بیت پر عظمت حق کے ساتھ

تَزِيدُ بِهَا عَلَيْنَا وَعَلَى أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ فَضْلَهُ

اور زیادہ کر اس کے ساتھ ہم پر اور ان کی اہل بیت پر ساتھ اپنے فضل

الْعَظِيمَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

عظمی کے ساتھ اور رحمت نازل فرما مؤمنین اور مؤمنات اور

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ يَا

مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر جو زندہ اور فوتہ پر لے

رَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ان پر دُرُودِ بِيحِجِّ اور ان کی آل پر اور آپ

أُولِيَّائِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

کے صحابہ پر اور آپ کے اولیاء پر برکت اور سلام ہوئے اللہ کر دے جو

بِقِرَاءَتِهَا وَكِتَابَتِهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ

پڑھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے اس گھر میں رحمت

رَحْمَةً وَرَاحَةً وَشِفَاءً وَعَافِيَةً

راحت اور شفا اور عافیت اور

وَرِزْقًا حَسَنًا وَخَيْرًا كَثِيرًا وَسَلَامًا

رزق حسن اور خیر کثیر اور ٹھنڈک اور

وَأَرْفَعُ بِقِرَاءَتِهَا وَكِتَابَتِهَا عَنْ هَذَا الْبَيْتِ

سلاحتی اور دور کر ساتھ پڑھنے اور لکھنے کے اس گھر سے اور اس گھر

وَأَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ كُلِّ بَلَدٍ وَوَبَاءٍ

کے اہل سے تمام آفات اور وباء اور

وَفِتْنَةٍ وَفَسَادٍ وَفَقْرٍ وَكُفْرٍ وَكَافِرٍ

آزمائش اور فساد اور غربت اور کفر اور کافر کے اور تمام

وَكُلِّ شَرِّ اللَّهُمَّ نَسْئَلُكَ بِمَا عَفُوًّا

شر سے لے اللہ ہم اس کے ذریعے عفو

وَعَافِيَةً إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ أَنَا

اور عافیت کا سوال کرتے ہیں بے شک آپ کا قول اور فعل حق ہے

عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِبِي يَا رَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى

جو میں تیرا بند، ہونے کی صورت میں گمان کرتا ہوں لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَوْلِيَاءِهِ وَبَارِكْ

کے رب ن پر درود بھیج اور ان کی آل پر آپ کے صحابہ پر اور آپ کے اولیاء پر

وَسَلِّمْ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَكَمَا تُحِبُّ

برکت اور سلامتی ہو جیسا کہ وہ اس کے اہل ہیں اور جیسا کہ تیری محبت اور

وَتَرْضَى لَهُ وَعَلَيْنَا وَعَلَى أَهْلِ هَذَا

تیری رضا ہے اور ہم پر اور اس گھر کے اہل پر جو ان کے ساتھ ہیں

الْبَيْتِ مَعَهُمْ وَاجْعَلْنَا أَهْلًا لِدَلِكِ

کردے ہمیں اس کے اہل بنا دے لے

اللَّهُمَّ كُلَّ يَوْمٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ وَكُلَّ سَاعَةٍ

اللہ تمام دن تمام رات تمام ساعت

وَكُلَّ لَمْحَةٍ صَلَوَةٌ تَتَوَالِي وَتَدْوِمُ

اور تمام لمحات درود بھیج لے زندہ اور قائم

بِدَاوَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ رَبَّنَا

رہنے والے مالک ہمیشہ ہمیشہ لے ہمارے

هَبْ لَنَا مِنْ أَمْرِ وَاِجْنَاءِ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ

رب ہماری ازواج اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک

أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبِّ

کردے اور بنادے ہمیں اہل تقویٰ کے لیے امام لے ہمارے رب

أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ

ہم وسوسے ڈالنے والے شیاطین سے تیری

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

پناہ مانگتے ہیں اور رب کی پناہ مانگتے ہیں یہ کہ حاضر کئے جائیں

رَبِّ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَامَاتِ

اللہ کی پناہ ساتھ ہمیشہ رہنے والے اللہ کے کلمات سے جو برائی میں

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

سے ہے حضرت ابراہیم پر سلام ہو

سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ سَلَامٌ عَلَىٰ

حضرت موسیٰ پر اور ہارون پر سلام اور

إِلَىٰ يَسِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ

سلام آل یاسین پر اور سلام ہو حضرت نوح علیہ السلام پر دونوں

وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ سَلَامٌ مِّن قَوْلٍ

جہانوں میں اور سلام ہو مرسلین پر سلامتی ہو اپنے

مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ سَلَامٌ مِّنْ هِيَ حَتَّىٰ

رب رحیم کے قول پر اور سلامتی ہو

مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

فجر ہونے تک

درود مستجاب الدعوات

اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کیلئے یہ درود شریف بڑا وسیلہ ہے۔ جو شخص اسے سو مرتبہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء پڑھے وہ زندگی بھر معزز و مکرم رہے اگر تنگدستی اور مفلسی دور کرنے کی نیت سے پڑھے تو بہت جلد اللہ اس پر کرم کرے گا اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور جو شخص اس درود پاک کو روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھے تو وہ اس درود پاک کی بدولت عزت و دولت اور برکت جیسی عظیم نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص رزق حلال کھا کر نوے دن تک روزانہ اسے گیارہ سو مرتبہ سوتے وقت پڑھے تو انشاء اللہ زیارت رسول اکرم ﷺ سے مشرف ہوگا۔ شیخ نور الدین شونیؒ روزانہ دس ہزار بار درود پاک پڑھا کرتے تھے اور شیخ احمد زواریؒ روزانہ چالیس ہزار بار درود پاک پڑھا کرتے تھے (سعادة الدارين ۹۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْكَرِيْمِ

اے اللہ اپنے امی کریم نبی پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ

وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

پر رحمت اور سلامتی نازل فرما

درودِ صویہ

اللہ تعالیٰ نبی پاک ﷺ کا سب سے بڑا خود محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ مخلوق میں سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہندوستان، پاکستان میں عاشق رسول کو دیکھا جائے تو ہمارے دلوں کو درود و سلام پڑھنے کے تحفے دینے والے سب سے بڑے عاشق رسول اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان بریلویؒ ہیں۔ بے ادب فرقوں کی ظلمت میں محبت رسول ﷺ کی روشنی بکھیرنے والا چاند! جس طرح شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری نے مسلمان قوم کے دلوں میں آزادی کی شمع روشن کی اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر اعلیٰ حضرتؒ کے درود و سلام نے سنی مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول ﷺ پیدا اور مضبوط کی۔ اعلیٰ حضرتؒ نے اس درود شریف کے فضائل اور فوائد بہت بیان کئے ہیں ان میں سے صرف چند نمونے کے طور پر ذکر کئے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن اکیلا ہو یا مجمع کے ساتھ مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے دست بدستہ کھڑے ہو کر اس درود پاک کو سو مرتبہ پڑھے۔ جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو۔ جمعہ کے دن نماز فجر خواہ ظہر یا عصر کے بعد پڑھے۔

- 1۔ اس درود شریف کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ تین ہزار رحمتیں اتارے گا
- 2۔ اُس پر دو ہزار بار سلام بھیجے گا 3۔ پانچ ہزار نیکیاں اسکے نامہ اعمال میں لکھے گا 4۔ اس کے پانچ ہزار گناہ مٹا دیئے جائیں گے۔ 5۔ اسکے پانچ ہزار درجے بلند کرے گا 6۔ اسکے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ منافق نہیں 7۔ اسکے ماتھے پر تحریر فرمائے گا یہ دوزخ سے آزاد ہے 8۔ اللہ اسے قیامت کے دن

شہیدوں کے ساتھ رکھے گا 9۔ اسکے مال میں ترقی ہوگی 10۔ دشمنوں پر غلبہ دے گا 11۔ دلوں میں اس کی محبت رکھے گا 12۔ کسی دن خواب میں نبی پاک ﷺ کی زیارت نصیب فرمائے گا 13۔ ایمان پر خاتمہ ہوگا 14۔ قیامت کے دن رسول اکرم ﷺ اس سے مصافحہ کریں گے 15۔ رسول اکرم ﷺ کی شفاعت اس کیلئے واجب ہوگی۔

امام غزالی "کیمیائے سعادت میں ایک حدیث لکھتے ہیں۔ کہ فرمایا نبی پاک ﷺ نے جس نے خواب میں مجھے ﷺ کو دیکھا اس نے لازماً مجھے ﷺ ہی کو دیکھا۔ شیطان میری ﷺ کی صورت نہیں بنا سکتا۔ یوں تو اعلیٰ حضرتؒ کو خواب میں کئی بار نبی پاک ﷺ کا دیدار نصیب ہوا مگر جب دوسری بار حج پر گئے اور مدینہ پاک کی حاضری ہوئی تو بیداری کی حالت میں زیارت کی حسرت لئے روضہ اطہر کے سامنے پوری رات درود و سلام پڑھتے رہے۔ پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی۔ دوسری رات آگئی اسی جگہ روضہ اطہر پر سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوئے اور درود و سلام پڑھتے رہے۔ درود جدائی سے بے تاب ہو کر ایک نعتیہ غزل پیش کی۔ جس کا آخری شعر تھا

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا

تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں

شعر میں اعلیٰ حضرتؒ نے خود کو کتا کہا مگر میں نے ادباً شیدا لکھا۔ پھر کیا تھا قسمت جاگ اٹھی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ عاشق رسول نے اپنے آقا

ﷺ کی جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں زیارت کی (حیات اعلیٰ حضرت) سبحان اللہ! خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو خواب میں نبی پاک ﷺ کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور جن کو جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں دیدار نصیب ہو۔ یہ مقام اونچے درجوں میں بہت ہی اونچے درجے کا مقام ہے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت نے بھی اونچے درجوں میں بہت اونچے درجے کا مقام پالیا۔ کیوں نہ ہو؟ آپ محبت رسول ﷺ میں ”فنا فی الرسول“ ہیں آپ کا تین درود شریف کیجا کیا ہو اور درود رضویہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ صَلَّى اللّٰهُ

لے اللہ اپنے امی نبی پر درود بھیج اور ان کی آل پر صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

علیہ وسلم لے اللہ کے رسول آپ پر صلوة اور سلام

درود قطب

حضرت سید احمد بدویؒ کو نبی پاک ﷺ سے بے پناہ عشق تھا۔ اس عشق میں آپ جو درود پڑھا کرتے تھے اُسے درود بدوی کہتے ہیں۔ یہ درود پاک خواب میں اور بیداری کی حالت میں نبی پاک ﷺ کی نوبیارت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے حضوری کا مقام بھی حاصل ہوتا ہے اور پھر درجہ قطبیت حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسے درود قطب کہا جاتا ہے۔ اس درود شریف کے متعلق اکثر بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس کو تین بار پڑھنا دلائل الخیرات

کی قرأت کے برابر ہے۔ لہذا چالیس دن تک روزانہ ایک سو بار اس درود پاک کو پڑھے تو اسے بے پناہ انواراتِ الہیہ کا حصول ہوگا۔ نیک کام کا طالب شخص روزانہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد تین مرتبہ پڑھے۔ انشاء اللہ اسے حسب منشاء توفیق الہی مل جائے گی۔ برکت رزق کیلئے اس درود شریف کو فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے اکتالیس مرتبہ پڑھے انشاء اللہ بیش بہا رزق ملے گا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی نُوْرِ الْاَنْوَارِ وَسِرِّ

یا الٰہی نور الانوار اور اسراروں کے راز کھولنے والے

الْاَسْرَارِ وَتَذْرِیْقِ الْاَغْیَارِ سَيِّدِنَا

والے اور اغیار کے تریاق سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الْمُحْتَسِرِ وَآلِہِ الْاَطْہَارِ وَ

صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اطہار اور ان کے اچھے

اصحابہ الْاَخْیَارِ عَدَدَ نِعْمِ اللّٰہِ

صحابہ پر۔ رحمت نازل فرما اللہ کی بے پناہ نعمت

وَ اَفْضَالِہِ ط

اور فضل عطا ہو

درود کمالیہ

درود کمالیہ پڑھنے سے اہل طریقت کو روحانیت میں کمال حاصل ہوتا ہے اس لئے اسے درود کمالیہ کہا جاتا ہے بہت سے صوفیاء نے اس درود کو بہت پسند کیا ہے اور ان کے وظائف میں معمول رہا ہے۔ لہذا اللہ کا محبوب بندہ بننے کیلئے اسے دس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہئے اور اگر اسے روزانہ سو بار بعد نماز فجر اور سو بار بعد نماز عشاء پڑھا جائے تو تمام روحانی اسرار کھل جائیں گے اور بے شاہ ثواب ہوگا۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے بیماریوں سے بھی شفا یابی میسر آتی ہے اور خدا نخواستہ اگر کسی کو نسیان کی بیماری ہو تو اس درود پاک کی بدولت یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور قوت حافظہ درست ہو جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اے اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کامل پر

مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ وَعَلَىٰ آلِهِ كَمَا

اور آپ کی آل پر درود سلام اور برکتیں بھیج ایسی جیسی کہ

لَا نِهَآئَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهِ ۝

تیرے کمال کی انتہا نہیں اور نبی پاک کے کمال کا شمار نہیں

درود فاضل

یہ درود پاک زیارت النبی ﷺ کے لئے بہت مجرب ہے لہذا جو شخص یہ معمول بنالے کہ اس درود پاک کو ہر جمعرات محبت اور خلوص سے پڑھے تو وہ انشاء اللہ زیارت سے مشرف ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی مراد پوری ہو تو اسے چاہئے کہ نماز جمعہ کے بعد اس درود کو بارہ مرتبہ پڑھے اس کے علاوہ اگر پڑھنے والے پر قرض ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اس درود پاک کے ورد سے عظمت اور عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ درود پڑھنے والے کا دل نرم ہو جائے گا اور اس پر اللہ راضی ہوگا اور اسے مرنے کے بعد قبر میں راحت نصیب ہوگی۔

اگر کوئی شخص اتوار کے دن ایک سو مرتبہ پڑھے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ روایت ہے محمد بن عباس رضی اللہ عنہ، کہ میں ۶۳ برس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس رہا، ہر جمعرات کو قبر کے اندر سے اس درود شریف کی آواز آتی

تھی، اگر کسی شخص کا عزیز گم ہو گیا تو اس درود شریف کو پیر سے جمعرات تک ۱۲ مرتبہ ہر روز پڑھے جلد لاپتہ آدمی کا پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور کوئی تکلیف ہو جائے تو ۱۲ مرتبہ پڑھے۔ اگر کوئی غم ہو گا تو وہ فوراً دور ہو جائے گا نہ فقط اتنا بلکہ اتنا ثواب حاصل کرے گا کہ جن اور انسان اس کو نہ گن سکیں گے۔

اگر کوئی شخص اس درود شریف کو پڑھ کر سفر پر چلا جائے تو کوئی چیز اسے تکلیف نہ دے گی۔ کوئی شریا مصیبت اس کے آگے نہ آئے گی۔ ہمیشہ محفوظ رہے گا اگر کسی شخص نے اس درود شریف کو ایک مہینہ تک روزانہ ایک گھنٹہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔

اگر کسی شخص نے اس درود شریف کو لکھ کر کفن میں رکھ دیا تو قیامت کے دن شفاعت پاوے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرے گا کہ اس شخص کو ہر قسم کی سختی سے سلامت رکھو۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے اس

درود شریف کی حقیقت پوچھتے ہوئے فرمایا کہ اے جبریل اس درود

شریف کا کتنا ثواب ہے حضرت جبرئیل نے فرمایا یا رسول اللہ ﷺ اس درود شریف کے ثواب کو صرف خداوند تعالیٰ ہی جانتا ہے اگر تمام جن اور انس سارے درختوں کو قلم کر کے اور سمندروں کو روشنائی بنا کے اس درود شریف کا ثواب لکھیں تو بھی نہ لکھ سکیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ سید المرسلین پر درود و سلام

سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بھیج اے اللہ ہمارے سردار

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجَاهِدِيْنَ

محمد ﷺ سید المجاہدین پر درود و سلام

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ سید الشاہدین پر درود و

سَيِّدِ الشّٰهِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَائِفِينَ

محمد ﷺ سید الخائفین پر درود و سلام بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سرور محمد ﷺ سید الطالبین پر

سَيِّدِ الطَّالِبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

دُرود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سرور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّائِبِينَ اللَّهُمَّ

محمد ﷺ سید التائبین پر درود و سلام بھیج اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

ہمارے سرور محمد ﷺ سید العابدین پر

الْعَابِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

دُرود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سرور

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد ﷺ سید الحامدین پر درود و سلام بھیج اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

ہمارے سردار محمد ﷺ سید الصالحین

الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر درود و سلام بھیجے اللہ ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَكْرَمِينَ اللَّهُمَّ

محمد ﷺ سید الاکرمین پر درود و سلام بھیجے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

ہمارے سردار محمد ﷺ سید المنذرين پر

الْمُنْذِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

درود و سلام بھیجے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَشِّرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

سید المبشرين پر درود و سلام بھیجے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

ہمارے سردار محمد ﷺ سید الطيبين پر درود و سلام

الطَّيِّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بھیج لے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

سید العالمین پر دُرود و سلام بھیج لے اللہ ہمارے

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

سردار محمد ﷺ نبی زکی نقی پر دُرود و

الذِّكْرِ النَّقِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سلام بھیج لے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّأكِعِينَ اللَّهُمَّ

سید الراکعین پر دُرود و سلام بھیج لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

ہمارے سردار محمد ﷺ سید الساجدین

السَّاجِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر دُرود و سلام بھیج لے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِينَ اللَّهُمَّ

سید القائمین پر درود و سلام بھیج اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

ہمارے محمد ﷺ سید القاعدین پر

الْقَاعِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سید المتقین پر درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَغْفِرِينَ

سردار محمد ﷺ سید المستغفرین پر درود و سلام

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بھیج اے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ سید النادمین پر

سَيِّدِ النَّادِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاكِرِينَ

سید الشاکرین پر درود و سلام بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ

سَيِّدِ الْحَافِظِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سید الحافظین پر درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الذَّاكِرِينَ

سردار محمد ﷺ سید الذاکرین پر درود و سلام

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بھیج اے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ

سَيِّدِ الْعَاقِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سید العاقلین پر درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ

محمد ﷺ سید المحسنین پر درود و سلام بھیج اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے سرور محمد ﷺ قریشی ہاشمی

الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ الْعَرَبِيِّ

سرور محمد ﷺ مدنی عربی

الْمُكْرَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ

روز قیامت کو مکرم پر درود و سلام بھیج اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے سرور محمد ﷺ جو اہل جنت کے سرور ہیں

سَيِّدِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر درود و سلام اور برکت بھیج اے اللہ محمد ﷺ صاحب

عَلَى مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ

مقام محمود پر درود و سلام بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سرور محمد ﷺ صاحب

صَاحِبِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُمَّ

صراط مستقیم پر درود و سلام بھیج اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ

ہمارے سرور محمد ﷺ جو آخرین میں افضل

الْآخِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہیں پر درود و سلام بھیج اے اللہ ہمارے سرور

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

محمد ﷺ اور تمام انبیاء و مرسلین اور

وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

تمام ملائکہ مقربین اور

وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ

اللہ کے تمام نیک بندوں پر جو تمام آسمانوں اور

السَّمَوَاتِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِينَ وَعَلَيْكَ

زمینوں میں ہیں اور ان کے ساتھ تمام پرے

مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ

سب سے زیادہ رحم کرنے والے ساتھ اپنی رحمت کے

الْزُّحَمِيِّينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

دُرُودِ وَسَلَامٍ بِحَبِيبِ اللَّهِ كَرِهُتَ هُوَ سَرُورِ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر اور

أَجْمَعِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سلامتی مجموعی طور پر اللہ کی صلوة اور سلامتی ہوان پر

دروودِ عالی

اگر کسی کو کسی کام میں فتح یا نصرت درکار ہو تو اسے چاہئے کہ چالیس یوم تک بعد نماز عشاء اس درود پاک کو ہزار مرتبہ پڑھے انشاء اللہ حسب منشاء ہر کام میں فتح یابی نصیب ہوگی۔ ناجائز مقدمہ بنا ہونے کی صورت میں تاریخ والے دن تہجد کے وقت سات سو مرتبہ پڑھے انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اے اللہ درود سلامتی اور برکت عطا فرما امی نبی سیدنا

مُحَمَّدِ بْنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ عَالِي

مخبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیرا حبیب عالی قدر عظیم مرتبہ والا ہے

الْقَدْسِ عَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ

اور آپ کی آل اور صحابہ پر

صَلِّهِ وَسَلِّمْ ○

سلامتی عطا فرما

درودِ ثواب

جو کوئی درودِ ثواب کثرت سے پڑھے لا محذورِ ثواب پائے گا۔ اہل خانہ اس کے فرمانبردار رہیں گے۔ تابعداری اولاد کے لئے اسے جمعہ کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھئے انشاء اللہ اولاد تاحیات فرمانبردار رہے گی۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کی ہے حضور ﷺ نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ ہمارے گھرانے پر درود بھیجے اس کا ثواب بڑے پیمانے پر پائے تو اسے چاہئے کہ یہ درود شریف پڑھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ

اے اللہ ہمارے امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان

أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ

کی ازواج مطہرات یعنی مؤمنین کی ماؤں پر اور ان کے عزیزوں

وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

پر اور اہل بیت پر درود بھیج جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم

وَأَلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ○

علیہ السلام اور ان کی آل پر بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے

درودِ حصولِ عزت

جو شخص اس درود پاک کو روزانہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمادیتا ہے۔ ہر شخص اسے احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے شروع اور آخر میں پڑھنے سے دل پاک ہو جاتا ہے اجتماع میں جائیں وہاں یہ درود شریف پڑھتے رہیں انشاء اللہ حفاظت سے واپس لوٹیں گے۔ اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہو تو ہر تاریخ پر جاتے ہوئے حج کے سامنے دل میں یہ درود شریف پڑھتا رہے انشاء اللہ

مقدمے میں کامیابی ہوگی۔ دوران ملازمت اگر کوئی شخص تنگ کرتا ہو دفتر میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر کام شروع کرنے سے پہلے اکیس بار پڑھ لے اور اکتالیس دن تک پڑھے انشاء اللہ تنگ کرنے والا مہربان ہو جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اے اللہ درود و سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے سرور محمد ﷺ

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّفِیْعِ

پر اور ہمارے آقا محمد ﷺ کی آل پر جن کا مقام

مَقَامُهُ الْوَاجِبِ تَعْظِیْمُهُ وَاحْتِرَامُهُ

بہت بلند ہے جن کی تعظیم اور احترام فرض ہے

صَلٰوةٌ لَا تَنْقَطِعُ اَبَدًا وَلَا تَفْنِي سَرْمَدًا

ایسا درود جو کبھی منقطع نہ ہو اور کبھی فنا نہ ہو اور

وَلَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا ○

جسے کوئی شمار نہ کر سکے

درود اعلیٰ

سب سے چھوٹا، لا جواب اور اعلیٰ درود شریف۔ دیدار مصطفیٰ ﷺ کے واسطے اس سے بڑھ کر اور کوئی درود شریف نہیں جو کوئی اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیلئے اپنی رحمت کے ستر ہزار دروازے کھول دیتا ہے۔ جن کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب نہ ہوئی ہو اس درود شریف کو کثرت سے پڑھیں انشاء اللہ لازمی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوگی۔ یہ چھوٹا سا درود شریف بڑی بڑی اعلیٰ ہستیوں کے وظائف میں رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کے وظیفوں میں شامل تھا۔ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی بہت بڑے عاشق رسول۔ جو اپنی زندگی کے آخری 77 سال تک اس لئے مدینہ منورہ سے باہر سفر پر نہ گئے کہ کہیں مدینہ پاک سے باہر جاؤں اور وصال نہ ہو جائے تو رسول پاک ﷺ کی قربت سے دور نہ ہو جاؤں ان کے وظیفوں میں یہ درود شریف شامل تھا۔ الغرض جو کوئی شخص کثرت درود شریف کی تمنا رکھتا ہو اور درود شریف کے خزانے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ڈھیروں کے ڈھیر جمع کرنا چاہتا ہو اس چھوٹے سے برکت والے درود شریف کو کثرت سے پڑھے اللہ تعالیٰ کے حضور خزانوں کے انبار لگ جائیں گے اور جس کے خزانے اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہو جائیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلَّىٰ اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ درود بھیج محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر

درود نصرت

یہ درود تائیدِ نبی کا آئینہ دار ہے لہذا جو اسے کثرت سے پڑھنے کا معمول بنالے اس کے ہر کام میں اللہ کی نبی امداد شامل ہوگی اور اس کا ہر کام آسانی کے ساتھ انجام پائے گا اس لئے کاروباری حضرات کے لئے اس کا ورد بہت مفید ہے لہذا انہیں چاہئے کہ اپنے کاروبار کے مقام پر روزانہ گیارہ مرتبہ اس درود پاک کا ورد رکھیں تو ان کے کاروبار میں ہر لحاظ سے نفع ہوگا اور خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس درود کی برکت سے پڑھنے والا حضور ﷺ کی شفاعت کا مستحق ہوگا اور آپ ﷺ کی شفاعت سے اسے جنت ملے گی اور جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر حضور ﷺ تشریف فرما ہوں گے اور وہاں حوض کوثر ہوگا اور وہ پڑھنے والا حضور ﷺ کے پاس وہاں جائے گا اور وہاں سے حوض کوثر کا پانی پئے گا جو بہت اعزاز ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ نَحَمَّتْ بِهٖ الرِّسَالَةَ

اے اللہ درود بھیج اس ذات پر جس کے ساتھ تو نے رسالت کو محرم کیا اور

وَإِيْدَانَهُ بِالنُّصْرِ وَالْكَوْنِ وَالشَّفَاعَةِ ○

تائید فرمائی اس کی اپنی مدد سے اور کوثر اور شفاعت سے

درود وسیلہ

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی مجھ ﷺ پر درود پڑھا کرو تو میرے لئے ﷺ وسیلہ بھی مانگا کرو کسی نے عرض کیا کہ حضور ﷺ وسیلہ کیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا جنت کا اعلیٰ درجہ یعنی مقام محمود ہے اور اس درود پاک میں مقام محمود کا ذکر ہے۔ لہذا جو شخص یہ درود پڑھے اسے اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کی شفاعت کا وسیلہ عطا کرے گا اس کے علاوہ اس کے درجات بلند کرے گا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے رضائے الہی حاصل ہوگی۔ جو شخص کسی نیک محفل میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اس درود کو پڑھے دوسرے اس کی عزت کریں گے جو شخص افسر بالا کے پاس جاتے وقت ایک مرتبہ اس درود کو پڑھ لے انشاء اللہ اس کا کام اس کی منشاء کے مطابق کرے گا۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ مَا

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد ﷺ پر بشمار اس کے کہ احاطہ کیا ہے اُس

اِحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ اَحْصَاهُ كِتَابُكَ

کا تیرے علم نے اور شمار کیا ہے اُس کو تیری کتاب نے ایسا درود جو

صَلٰوةٌ تَكُوْنُ لَكَ رِضٰی وَ لِحَقِّهِ

تیری رضا کا باعث ہو اور آپ کے حق کو ادا کر دے اور

اَدَاةً وَ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ

عطا فرما آپ کو وسیلہ اور بزرگی اور

وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ اَبْعَثْهُ اللّٰهُمَّ

درجہ بلند اور فائز فرما آپ کو اے اللہ

المَّقَامَ الْمُحْمَدُوْدَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَ

مقامِ محمود پر جس کا تو نے اُن سے وعدہ کیا ہے اور جزا دے

اَجْرَهُ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَ عَلٰی جَمِيْعِ

آپ کو ہماری طرف سے جس جزا کے آپ لائق ہیں اور آپ کے تمام بھائیوں

إِخْوَانِهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَ

پر انبیاء سے اور صدیقین سے اور

الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ○

شہیدوں سے اور صالحین سے

درود ماہی

درود ماہی ہر قسم کی مصیبت اور آفت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے حفاظت میں رکھتا ہے اسے کثرت سے پڑھنے والا دشمن کے حملے، حاسد کی حسد جنات اور آسیب کے تنگ کرنے سے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے یہ درود شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے جو شخص اسے روزانہ بعد نماز فجر ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور عزت افزائی کے لئے فیہی مخلوق سے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ہر لحاظ سے درود پڑھنے والے کی حفاظت پر مامور رہتا ہے۔

جو شخص ہر نماز کے بعد چار ماہ تک اسے ایک مرتبہ پڑھے وہ ہمیشہ کے لئے لوگوں میں باعزت ہو جائے گا ہر شخص اس کی عزت

کرے گا اور جو شخص اسے رمضان المبارک میں نماز تراویح کے بعد
۴۱ مرتبہ پورا ماہ پڑھے اسے رسول اکرم ﷺ کی زیارت ہوگی اور جو
شخص اس درود کو قید میں پڑھے وہ قید سے رہائی پائے گا اور جو
تاحیات اسے روزانہ کثرت سے پڑھے اس پر دوزخ کی آگ حرام
ہو جائے گی۔

اس درود شریف کی سند یہ ہے کہ ایک روز حضور اکرم ﷺ مسجد
نبوی ﷺ میں تشریف فرماتے آپ ﷺ کے پاس ایک اعرابی آیا اس
کے پاس ایک بڑا برتن تھا جسے اس نے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا
اس اعرابی نے وہ برتن آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کیا
حضور ﷺ نے پوچھا کہ اے اعرابی اس برتن میں کیا ہے اس نے
عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ تین دن سے اس مچھلی کو پکارا ہوں مگر یہ
بالکل پک نہیں رہی اس پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوتا اب آپ ﷺ
کے پاس لایا ہوں کہ آپ ﷺ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضور
اکرم ﷺ نے مچھلی سے دریافت کیا تو مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے قوت
گویائی عطا فرمادی اور وہ بولنے لگی اس نے عرض کیا کہ میں پانی میں

کھڑی تھی تو ایک آدمی آیا وہ ایک درود پڑھ رہا تھا اس کی آواز میرے کان میں پڑی اور میں نے پورا درود سنا حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے مچھلی وہ درود پڑھ کر سنا چنانچہ اس نے پڑھ کر سنایا۔ رسول اکرم ﷺ نے حضرت علیؑ کو فرمایا کہ اے حضرت علیؑ اس درود کو لکھ لو۔ اور لوگوں کو سکھاؤ انشاء اللہ یہ درود پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی لہذا اس درود کو درود ماہی کہا جاتا ہے اور وہ درود شریف یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جو مخلوق میں سے

خَيْرِ الْخَلَائِقِ وَاَفْضَلِ الْبَشَرِ وَشَفِيعِ الْاُمَّمِ

سے بہتر ہیں اور افضل بشر ہیں اور یوم حشر و نشر میں

يَوْمَ الْحَشْرِ وَ النَّشْرِ وَ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا

اُمت کے شفیع ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر معلوم اعداد کی حد تک

مَعْلُومٍ لَّكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ

اور برکت اور سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسولوں

وَالْمُرْسَلِينَ وَصَلِّ عَلَى كُلِّ الْمَلَائِكَةِ

پر درود بھیج اور تمام مقرب ملائکہ اور

الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَ

صالح بندوں پر زیادہ سے زیادہ درود اور سلام بھیج

سَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ وَ

ساتھ اپنی رحمت اور اپنے فضل اور

بِفَضْلِكَ وَبِكْرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ

اپنے کرم کے اے سب سے زیادہ کرم

بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّحِيمِينَ هُ يَا قَدِيمًا

کرنے والے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ساتھ اپنی رحمت کے

دَائِمٌ يَاحَىٰ يَا قَيُّوْمُ يَا وِتْرًا يَا أَحَدًا يَا صَدِيدًا يَا مَنْ

اے قدیم اے ہمیشہ رہنے والے اے زندہ اے قائم اے وتر اے احد اے

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

بے نیاز جسے کسی نے جنا نہیں اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہیں اس کے

بِرُحْمَتِكَ يَا رُحِمَ الرَّحِمِينَ ط

جوڑ کا کوئی وہ اکیلا ہے ساتھ اپنی رحمت کے لئے رحم کرنے والے رحم کر

درود ہزارہ

درود ہزارہ طالبان روحانیت کا محبوب درود ہے کیونکہ اس درود سے سالکین کو روحانی منازل طے کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور رسول اکرم ﷺ کی خاص شفقت عنایات اور توجہ حاصل ہوتی ہے عام حضرات کے لئے بھی یہ درود زیارت النبی ﷺ کے لئے بہت موثر اور اکیسر ہے۔ لہذا جو شخص حضور ﷺ کی زیارت کا خواہش مند ہو تو اسے چاہئے کہ رمضان المبارک میں یہ درود روزانہ تہجد کے وقت ایک ہزار مرتبہ پڑھے انشاء اللہ بہت جلد

زیارت سے سر فراز ہوگا اسے ایک بار پڑھنے سے ہزار نیکیوں کا
 ثواب ملتا ہے اور ایک سو حاجتیں پوری ہوتی ہیں دنیاوی فیوض و
 برکات حاصل کرنے کے لئے اسے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ
 پڑھنا بہت بہتر ہے غم و فکر اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے
 کے لئے اسے بعد نماز فجر ۱۰۰ مرتبہ پڑھنا چاہئے۔ انشاء اللہ دل کو
 سکون حاصل ہوگا اور تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔

وسعت رزق اور قرضہ کی ادائیگی کے لئے بعد نماز عشاء ۳۱۳
 مرتبہ پڑھنا بہت مجرب ہے لہذا جو شخص قرض میں دبا ہوا ہو تو اس
 کے لئے اس درود پاک کا پڑھنا نہایت ہی مفید ہے جو شخص جمعہ کے
 روز اسے پڑھے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یہ درود خاندان
 چشتیہ کے اکثر بزرگوں سے معمول میں سے ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور

بَعْدَ كُلِّ ذَّرَّةٍ مِّائَةٌ اَلْفٍ مَّرَّةً

ہر ایک ذرہ کے عوض دس کروڑ بار اور برکت دے اور

وَبَارِكُ وَسَلِّمْ هُ

سلام بیج

درود دیدار

یہ درود رسول اللہ ﷺ کے دیدار کے لئے بہت موثر ہے کیونکہ جذب القلوب میں لکھا ہے کہ جو شخص پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اس درود شریف کو ہمیشہ ۳۱۳ مرتبہ پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے خواب میں حضور نبی کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف فرمائے گا۔ اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو ہر جمعہ کے روز بعد نماز مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے اس درود پاک کو ہزار بار پڑھنے کا معمول بنالے تو اسے خواب میں حضور سرور کائنات ﷺ کی زیارت ہوگی۔ اس درود پاک کی سب اہم خاصیت یہ ہے کہ اسے کثرت سے پڑھنا حضور ﷺ کی محبت کا حصول ہے۔ اور جس کے دل میں حضور ﷺ کی محبت پیدا ہو جائے حضور ﷺ اس پر مہربان ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی اور اگر کوئی شخص ۳ سال

تک اس درود پاک کو روزانہ ۴۱۰۰ مرتبہ دعوت پڑھے تو اسے مقام
حضورِی حاصل ہو جائے گا مزرع الحسنات میں درج ہے کہ اگر کوئی
شخص اس درود شریف کو پڑھے تو ستر فرشتے ایک ہزار روز تک اس
کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

الہی حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاهُ لَهُ

اٰلِ اَوْلَادِہٖ بِرَحْمَتِہٖ نازل فرما جس سے تم پسند فرماتے ہو

درود ناریہ

یہ درود شریف نہایت ہی زود اثر ہے فی الحقیقت یہ درود صدق
دل سے پڑھ کر اگر پہاڑ کو انگلی سے اشارہ کیا جائے تو پہاڑ فوراً ٹکڑے
ٹکڑے ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ طاقت اس درود
شریف میں رکھ دی ہے۔

یہ درود شریف ایک ایسا راز ہے جس کو عارفوں اور خاص الخاص
ولیوں کے سوا کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ اس میں بے شمار خاص فوائد ہیں

جن کو اگر لکھا جائے تو دنیا کی سیاہی اور کاغذ ختم ہو جائے۔ سب سے زیادہ اس درود ناریہ کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی رنج و ملام ہو یا کوئی مصیبت آجائے تو فوراً اس کو پڑھا جائے، انشاء اللہ تمام مصیبتیں منٹوں میں ختم ہو جائے گی، اندھیرا اجالے میں بدل جائے گا۔ زحمت رحمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ رب کریم غیب سے مدد دیتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا

اے اللہ تو درود نازل کر ایسا درود جو کامل ہو اور سلام بھیج ایسا سلام جو مکمل ہو

تَأْمَنَّا عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اوپر ہمارے سرور اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے ذریعے

تَنْحَلُّ بِهٖ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِحُ بِهٖ الْكُرْبُ وَ

سے مشکلیں حل ہوتی ہیں اور پریشانیاں رفع ہوتی ہیں، اور ضرورتیں پوری

تُقْضَى بِهٖ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهٖ الرَّغَائِبُ

ہوتی ہیں اور مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور خاتمہ بخیر ہوتا ہے اور

وَحُسْنُ الْخَوَاتِيمِ وَيُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ

بادل آپ کے معزز چہرہ کو دیکھ کر سیراب

الْكَرِيمِ وَعَلَى إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ فِي

ہوتا ہے اور درود بھیج آپ کی اولاد پر اور آپ کے دوستوں پر

كُلِّ لِمَحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ

اور ہر لمحہ اور ہر سانس میں مطابق اپنی معلومات

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ ○

کے شمار کے لئے اللہ! اللہ! اللہ! اللہ!

درود مجتہبی

یہ درود بھی اکثر مشائخ کرام کا پسندیدہ درود ہے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ ہے جو شخص جمعرات کو آدھی رات گزرنے کے بعد تہجد کے نوافل پڑھے اور نوافل کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ اور اخلاص کے بعد ہزار بار یہ درود پاک پڑھے اور گیارہ روز تک یہی عمل جاری رکھے انشاء اللہ نبی مکرم ﷺ کی زیارت ہوگی بشرطیکہ پیچھے مرشد کی

دعا اور توجہ ہو ایک بزرگ کا قول ہے کہ خدا نخواستہ درود شریف اگر دھوکہ - فریب - مکاری اور دکھاوے کے لئے بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے ذکر کی وجہ سے اس کو قبول کر لیتا ہے مزید فرمایا اگر دنیا میں سب سے زیادہ نبی پاک ﷺ سے محبت رکھ کر درود شریف پڑھیں تو انسان اللہ تعالیٰ اور نبی پاک ﷺ کے جلد قریب ہو جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ حَبِيبِكَ الْمُحِبِّ

اے اللہ رحمت سلام اور برکت بھیج اپنے مقبول حبیب پر

وَرَسُوْلِكَ الْمُرْتَضٰى وَعَلٰى اٰلِهِ وَ

اور اپنے برگزیدہ رسول پر اور آپ کی آل پر

اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ۝

اور سب صحابہ پر

درود کوثر

درود کوثر سے مراد وہ درود ہے جسے پڑھنے سے آخرت میں

حوض کوثر کا پانی ملے گا لہذا جسے تمنا ہو کر قیامت کے روز ساقی

کوثر ﷺ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام ملے تو اسے چاہئے کہ وہ اس درود کو کثرت سے پڑھے جس کی بنا پر جنت کا حق دار بن جائے گا اور جب وہ قیامت کے روز جنت میں جائے گا تو پھر اسے حوض کوثر کا جام نصیب ہو گا یہ کتنا بڑا اعزاز ہو گا کہ قیامت کے روز جب لوگ پیاس کی شدت سے بلبلارہے ہوں گے تو اسے حوض کوثر کا ٹھنڈا مشروب میسر آئے گا۔ اس لئے یہ درود حضور ﷺ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے موثر ذریعہ ہے۔

حضرت خواجہ حسن بصری جو صوفیا کے جد اعلیٰ ہیں انہوں نے اس درود کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ تمنا رکھتا ہو کہ خدا کا قرب حاصل ہو تو اسے چاہئے کہ درود کوثر کثرت سے پڑھے۔ انشاء اللہ اس کی بدولت بہت جلد اللہ سے حضور ﷺ کا قرب حاصل ہو جائے گا اس درود کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اسے پڑھنے والا دنیا کی نظروں میں ہمیشہ باعزت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی بدولت ایسی عزت سے نوازتا ہے کہ اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ

اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین میں اور

وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ وَ

درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرین میں اور

صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّيْنَ وَصَلِّ

درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں میں اور درود بھیج

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِيْنَ وَصَلِّ عَلٰی

ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مرسلین میں اور درود نازل کر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَاوَا عَلٰی اِلٰی يَوْمِ الدِّيْنِ ط

ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ملا را اعلیٰ میں قیامت کے دن تک

درود مشاہدہ

مشاہدہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام ہے اور اس کا مطلب چشم
طن سے غیبی اشیاء کو دیکھنا ہے اور یہ مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے لہذا
شخص صاحب مشاہدہ بننا چاہے وہ اس درود پاک پر زہد کرے یعنی

اسے فرضی عبادت کے بعد بہت کثرت سے پڑھے جوں جوں پڑھنے کی تعداد میں اضافہ ہوگا ویسے ہی اسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا بالآخر وہ مقام آجائے گا کہ اسے مشاہدہ ہونے لگے گا۔ اس کے علاوہ اس درود پاک کو روزانہ ۱۱ مرتبہ پڑھنے سے رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو شخص اسے چالیس دن تک روزانہ ۳۱۲۵ مرتبہ پڑھے اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ

اے اللہ درود بھیج اپنے حبیب رحمت اللعالمین پر اور

وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ ۝

آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر

درود دعاودوا

یہ درود دعا بھی ہے اور دوا بھی لہذا اس درود پاک کو پڑھنے سے ہر مرض سے شفا ہوگی اور جو دعا اس درود کے پڑھنے کے بعد مانگے

گا وہ انشاء اللہ قبول ہوگی، حکماء حضرات اگر چاہیں کہ ان کی دی ہوئی دوا میں شفاء الہی شامل ہو جائے تو انہیں چاہئے کہ دوا دیتے وقت ایک بار یہ درود پڑھیں انشاء اللہ جس مریض کو اس درود کے توکل سے دوا دیں گے وہ شفا یاب ہوگا۔

علامہ ابن المتشہر کا کہنا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کروں جو سب سے افضل ہو اور اب تک کسی مخلوق نے نہ کی ہو جو اولین اور آخرین اور ملائکہ مقربین آسمان والوں اور زمین والوں سے افضل ہو تو اسے یہ درود پاک پڑھنا چاہئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَصَلِّ

اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے جو تیری شان کے مناسب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَافْعَلْ بِنَا

پدر درود بھیج جو تیری شان کے مناسب ہے اور میرے ساتھ بھی وہ معاملہ

مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى

کر جو تیری شان کے شایان ہو بے شک تو ہی اس کا مستحق ہے کہ

وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

مجھ سے ڈرا جائے تو مغفرت کرنے والا ہے

درود حضوری

حضور پر نور آقائے دو جہاں ﷺ کی عالم روحانیت میں ایک مجلس لگی رہتی ہے جسے مجلس محمدی ﷺ کہتے ہیں اس مجلس میں صحابہ کرام اور اولیاء عظام کی رُو حیں حاضر ہوتی رہتی ہیں اور مقام ظاہری حیات میں صرف ان اولیاء کو حاصل ہوتا ہے جنہیں مقام حضوری ملتا ہے اور یہ مقام حاصل کرنے کے لئے درود حضوری بڑا کسیر ہے لہذا جو شخص روزانہ گیارہ سو مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے اسے بڑی جلدی زیارت رسول اکرم ﷺ کے بعد مقام حضوری حاصل ہو جاتا ہے اسی لئے اس درود کو درود حضوری کہا جاتا ہے۔

حضرت شیخ عبداللہ بن نعمان نے ایک مرتبہ خواب میں حضور ﷺ کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں کونسا درود پڑھوں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ

یہ درود پڑھا کرو چنانچہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن نعمان اپنی
بقیہ زندگی میں یہی درود پڑھتے رہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود بھیج کہ جس سے ان کا

مَلَائَتْ قَلْبُهُ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْنُهُ مِنْ

دل تیرے جلال اور ان کی آنکھیں تیرے جمال میں تر رہیں پھر

جَمَالِكَ فَاصْبِحَ فَرِحًا مَسْرُورًا

سرور تائید سے آپ خوش و شاد ہو جائیں اور آپ کی

مُؤَيَّدًا مَنصُورًا وَعَلَىٰ اِلٰهِ وَصْحِيهِ

آل پر اور آپ کے صحابہ پر

وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ

سلامتی و تسلیم نازل فرما۔

درود بشارت

اس درود پاک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی

شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو اسے چاہئے کہ رات کو سوتے وقت اس درود کو گیارہ روز تک گیارہ سو مرتبہ پڑھے اسے انشاء اللہ خواب میں گم شدہ چیز کے بارے میں اشارہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی ویرانے میں یا غیر ملک میں بے یار و مددگار ہو تو اسے چاہئے کہ اس درود پاک کو بعد نماز فجر گیارہ سو مرتبہ پڑھے انشاء اللہ پردہ غیب سے اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اگر یہ درود پاک سو لاکھ مرتبہ پڑھ کر کسی فوت شدہ شخص کی روح کو بخشا جائے تو اس کی قبر روشن ہو جائے گی یعنی اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنا خوش خبری کی دلیل ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا اور مولا محمد ﷺ پر بشمار اس کے جو

عَدَدَمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَعَدَدَمَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ

ہو چکا ہو رہا ہے اور جو ہو گا اور بشمار ان چیزوں کے کہ تاریک ہوئی ان

النَّيْلِ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ ○

پر رات اور روشن ہوا ان پر دن

درود افضل

علامہ سخاوی نے اپنی کتاب القول البدیع میں ایک روایت درج کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ کی زوجہ مترمہ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ حلف اٹھائے کہ میں حضور اکرم ﷺ پر افضل ترین درود بھیجوں گا تو اسے چاہئے کہ یہ درود پڑھے۔ اس لئے اسے افضل درود کہا جاتا ہے لہذا جو شخص یہ چاہے کہ اس پر ہمیشہ اللہ کی رحمت رہے وہ اس درود پاک کو ہر روز ۴ مرتبہ پڑھے۔ اگر کوئی شخص اسے فجر کی نماز کے بعد ۱۰۰ مرتبہ ۴۰ دن تک پڑھے تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ درود افضل یہ ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرا بندہ اور تیرا

و نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ

نبی اور تیرا رسول نبی امی ہے اور آپ کی آل پر

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْهِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمْنَاهُ غَدَاةَ حَرْبِهِ
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْهِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمْنَاهُ غَدَاةَ حَرْبِهِ

اور آپ کی ازواج بہ اور آپ کے رشتہ داروں پر اور تعلقت کی تعداد

خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ

کے برابر اور اپنی ذات کی رضا کے مطابق اور اپنے عرش کے وزن کے

وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ ط

مطابق اور اپنے کلموں کی سیاہی کے مطابق سلام ہو

درود نجات و با

درود نجات و با پڑھنے سے وباؤں سے نجات ملتی ہے اگر کسی
 مقام پر کوئی ایسی وبا پھیل جائے جس کا علاج یا حل نہ ہو رہا ہو تو اس
 صورت میں یہ درود سوالا کھ مرتبہ پڑھنے سے سے وبا سے نجات
 ملے گی۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مولا شمس الدین
 کے وطن میں ایک وبا پھوٹ پڑی بہت سی اموات ہو گئیں ایک
 رات انہیں سرور کائنات ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی تو مولانا نے
 حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اکرم ﷺ اس

علاقے میں وبا پھیل گئی ہے تو حضور اکرم ﷺ نے انہیں یہ درود پاک خواب میں بتایا اور فرمایا ﷺ اگر کوئی وبا پھیلنے کی صورت میں یہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس علاقے کو وباء سے محفوظ کرے گا۔ چنانچہ مولانا نے یہ درود پاک کثرت سے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے سے وبا کو ختم کر دیا۔ اسی لئے اسے درود نجات و با کہا جاتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

لے اللہ درود بھیج ہمارے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ دَاعٍ وَّ دَوَّاءٍ وَّ

آل پر مطابق تمام بیماریوں کی دوا کے اور تمام ملت و شفاء

بَعْدَ كُلِّ مَلَّةٍ وَّ شِفَاءٍ ط

کی تعداد کے مطابق

درود اعتصام

مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت یہ درود پڑھیں اس کے بعد جب مسجد نبوی ﷺ میں داخل ہوں تو پھر بھی ایک مرتبہ اس درود پاک

کا ورد کریں، روضہ رسول ﷺ پر حاضری دینے کے بعد ریاض الجنۃ میں بیٹھ کر روزانہ گیارہ سو مرتبہ اس درود پاک کا ورد کریں انشاء اللہ خواب میں حضور ﷺ کی زیارت ہوگی اس کے علاوہ سوتے وقت اس درود پاک کو ایک بار پڑھ لینا خیر و برکت کا باعث ہوگا اگر کسی شخص پر ناحق کوئی الزام لگا جائے تو اسے چاہئے کہ اس درود پاک کو ۱۱۱ مرتبہ گیارہ دن تک پڑھے انشاء اللہ وہ الزام سے بری ہو جائے اور ناحق الزام لگانے والا نقصان اٹھائے گا جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے اسے ایمان میں حد درجے کی استقامت حاصل ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اے اللہ درود اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ

محمد پر اور ہمارے آقا محمد ﷺ کی اولاد پر جو ان سب سے افضل ہیں

مَدُوْحٍ بِقَوْلِكَ وَاَشْرَفِ دَاِعِلِ اَوْلِيَّعِيْصَا

جن کی تعریف تو نے اپنے کلام سے کی ہے اور ان سب سے افضل ہیں جنہوں نے تیری رسی

بِحَبْلِكَ وَخَاتِمِ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ

کو مضبوط پکڑنے کی دعوت دی ہے اور تیرے انبیاء و رُسُل کے خاتم ہیں ایسا درود کہ

صَلَاةٌ تَبْلُغُنَا فِي الدَّارَيْنِ عَمِيْمٍ

پہنچا دے ہمیں دونوں جہانوں میں تیرے علمِ مفضل تک اور تیری خوشنودی کی

فَضْلِكَ وَكَرَامَةً رِضْوَانِكَ وَوَصْلِكَ ۝

عزت تک اور تیرے وصال تک

درود طیب

گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے درود طیب بہت ہی موثر ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کی زندگی گناہوں اور برائیوں میں گزر گئی ہو تو جس وقت بھی احساسِ ندامت ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے اس درود شریف کو صبح و شام کثرت سے پڑھنا شروع کر دے تو انشاء اللہ تمام گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور اس طرح ہو جائے گی جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اور بقیہ زندگی خود بخود نیکیوں کی طرف مائل رہے گی، کیونکہ درود طیب پڑھنے سے

زندگی میں نبی اکرم ﷺ کی تائید اور توجہ شامل حال ہو جاتی ہے اس لئے پڑھنے والے کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے۔

شب برات میں اگر اس درود شریف کو پڑھا جائے تو ہر مشکل حل ہو جائے گی جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ اسے ۳۱۳ مرتبہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھا جائے تو آخرت میں حضور ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی درود طیب یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُدْنِيِّينَ سَيِّدِنَا

اللہ کی صلوٰۃ ہو آپ پر اے گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہمارے

وَمَوْلَانَا أَحْمَدُ مُجْتَبَىٰ مُحَمَّدٍ مُّصْطَفَىٰ

سردار اور آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور

وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَحْبَابِهِ

آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر اور آپ کی ازواج پر اور

وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ

آپ کے احباب پر اور آپ کے رشتہ داروں پر اور آپ کے اہل بیت پر اور

أَجْمَعِينَ ط

تمام آپ کی اطاعت کرنے والوں پر

درودِ صلی اللہ علیہ وسلم

دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا والا وہ واحد درود شریف جسے ہر صحابی، اولیاء اللہ، قطب، ابدال، غوث، امیر، غریب، بادشاہ، فقیر غرض یہ کہ ہر مسلمان نے لازم پڑھا اور آئندہ بھی پڑھا جاتا رہے گا۔ قرآن شریف کے حکم کے مطابق جس میں درود و سلام بھی موجود ہے۔ اس کے فیوض و برکات بے پناہ ہیں۔ وظیفہ کرنے پر ثواب لا تعداد ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط


یا اللہ! درود و سلام بھیج نبی (ﷺ) پر

درود خاص

درود خاص کے فوائد لکھنا ناممکن ہیں۔ اس جگہ صرف اتنا لکھنا کافی ہوگا کہ کوئی بھی رنج یا پریشانی یا مصیبت آجائے تو صدق دل سے اس درود کو فوراً پڑھنا چاہئے۔ اس کی برکت سے ہر قسم کی مصیبتیں، تکلیفیں، رنج و غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس درود شریف کا پڑھنا اور تکلیفوں کا مٹنا یقینی بات ہے، پڑھنے والا اولی ہو جاتا ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ نُورٌ مِّنْ نُورِ اللّٰهِ ط

اے اللہ درود بھیجئے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر آپ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں



سائت

ظمن
الخاص

پیشی درود



① روایت ہے کہ ایک دن حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو ایک شخص نے آکر سلام کیا۔ حضور ﷺ نے اس شخص کو اپنے ﷺ اور ابو بکر کے درمیان بٹھالیا۔ صحابہ کرام اس قدر تعظیم و توقیر پر تعجب کرنے لگے اور اس کا سبب دریافت کرنے لگے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص مجھ ﷺ پر ایسا درود بھیجتا ہے جو آج تک کسی نے نہیں بھیجا، صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر آپ ﷺ نے وہ درود پڑھ کر سنایا۔ درود شریف یہ تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ① جنتی درود شریف

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَبِيْرَةِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ فِي

سے اللہ محمد ﷺ اور محمد ﷺ کی آل پر جو اول و آخر ہیں

الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَفِي الْمَلٰٓئِكِ الْاَعْلٰی

ملاءِ اعلیٰ (فرشتوں کی محفل) میں درود بھیج

اِلٰی يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

قیامت کے دن تک

② حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز صبح کو اس مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام مخلوق کے اعمال کے مثل ثواب حاصل کر لیتا ہے۔

② جنتی درود شریف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد (ﷺ) پر جو نبی ہیں ان تعداد کے

صَلِّ عَلَیْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

مطابق جو تیری مخلوق نے درود ان پر پڑھا اور درود بھیج محمد (ﷺ)

وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي لَنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَیْهِ

پر جو نبی ہیں جیسا کہ ہماری طرف ان کے لائق ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں

وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا

اور اے اللہ درود بھیج محمد (ﷺ) پر جو نبی ہیں جیسا کہ تو نے علم دیا ہے کہ

اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَیْهِ

ہم ان پر درود پڑھیں

③ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ

بات پسند ہو کہ اس کے درود کا ثواب بڑے پیمانہ میں ناپا جائے تو وہ ان الفاظ سے درود پڑھا کرے۔

جنتی درود شریف (۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَهْلِ

اے اللہ درود بھیج محمد (ﷺ) پر جو نبی امی ہیں اور ان کے اہل بیت پر

بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَاَزْوَاجِهِ

جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم ﷺ کی ازواج

اُمّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ اِنَّكَ

امہات المؤمنین پر اور ان کی اولاد پر بے شک

حَبِيْدٌ حَسِيْدٌ ط

تو تعریف والا ہے بزرگی والا ہے

(۴) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے حضرت ابو مسعود

رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ آقائے نامدار سرکارِ دو عالم ﷺ نے

فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا درود بہت بڑے پیمانے سے ناپا

مائے تو وہ اہل بیت پر درود شریف پڑھے اور اس طرح پڑھا کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ جنتی درود شریف (۴)

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰی

اے اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما محمد (ﷺ)

مُحَمَّدٍ وَالنَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ

پر جو نبی اور ان کی ازواج امہات المؤمنین پر اور ان کی

الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا

اولاد پر اور ان کے اہل بیت پر جس طرح تو نے رحمت نازل

صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیشک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے

⑤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم ﷺ کے

جلیل القدر اور ایک مشہور صحابی ہیں آپ زیادہ سے زیادہ حدیث

شریف حفظ کرتے تھے اور آپ سے بیشمار حدیثیں نقل کی گئیں

ہیں۔ دوسرے باکمال صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان

دونوں حضرات سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جو شخص جمعہ کے

دن نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسی مرتبہ درود پڑھے تو

اس کے اسی برس کے گناہ معاف ہوں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ⑤ جنتی درود شریف

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ

اے اللہ درود بھیج محمد (ﷺ) پر جو نبی امی ہیں اور

عَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

ان کی آل پر اور خوب سلام ہو

④ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست عالم اور محدث اور مشہور ولی اللہ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص انعام و اکرام تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں سے ہیں۔

آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص چاہے کہ رسول اللہ ﷺ کے حوض (کوثر) سے بھر پور پیالہ پیوے تو وہ یہ درود شریف پڑھا کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ④ جنتی درود شریف

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِهِ وَاصْحَابِهِ

اے اللہ درود بھیج محمد (ﷺ) پر ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر ان کی

وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِهِ

ازواج مطہرات پر ان کی اولاد پر اور ان کے اہل بیت پر اور انکی

بَنَاتِهِ وَأَصْحَابَاتِهِ وَالنُّصَارَةَ وَأَشْيَاعَهُ

بیویوں کے والدوں (سر) پر اور انکی انصار پر اور انکی مدد کرنے والوں پر اور

وَحُبَّيَّتِهِ وَأُمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ اجْتَبَعِينَ

ان سے محبت کرنیوالوں پر اور ان کی امت پر اور انکی ساتھ ہم سب پر

يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ ط

اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

④ حضرت ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث شریف نقل ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص سات جمع (ہر جمعرات کو) سات مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا اس کے لئے میری ﷺ شفاعت لازمی ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ⑤ جنتی درود شریف

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ درود بھیج محمد (ﷺ) پر اور محمد (ﷺ) کی آل پر ایسا درود جس

تَكُوْنُ لَكَ رِضًا وَحَقِّقْهُ اَدَاءً وَاعْطِ

میں تیری رضا ہو اور ان کے حق کی ادائیگی کا سبب ہو اور دے انکو مقام

الْوَسِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِي

محمود اور مقام وسیلہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہماری طرف

وَعَدْتَهُ وَاَجْرُهُ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَاَجْرُهُ

سے انکو ایسی جزا عطا کر جس کے وہ اہل ہیں اور جزا دے ہماری طرف

عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَن اُمَّتِهِ وَصَلِّ

سے انکو بہت افضل۔ جس طرح تو نے نبی کو ان کی امتوں کی

عَلَىٰ جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ

طرف سے اور درود بھیج تمام انبیاء پر جو آپ کے بھائی ہیں اور تمام نیک لوگوں پر

يَا أُمَّ حَمَرَ الرَّحْمِيِّينَ ط

اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

درود العابدین

یہ درود مشہور بزرگ حضرت معروف کرختی کا وظیفہ خاص ہے۔ آپ نے یہ درود بہت کثرت سے پڑھا بلکہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود عابدین پڑھتے رہتے تھے۔ اور انہوں نے درود شریف کے بے شمار اسرار دیکھے اس لئے وہ اپنے مریدین کو یہ درود شریف پڑھنے کی اکثر تلقین فرماتے اس درود کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص یہ درود کثرت سے پڑھتا ہو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اپنی خاص رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔

اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں خاص حاجت رکھ کر اسے اکتالیس روز تک روزانہ امرتہ پڑھے تو انشاء اللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی اور حسب منشاء اس کا کام ہو جائے گا اگر کوئی شخص صاحب

کشف بننا چاہے تو اسے چاہئے کہ تہجد کی نماز کے بعد اس درود شریف کو کثرت سے پڑھے انشاء اللہ اس پر کمالات کشف کھل جائیں گے۔ اور روحانی درجات میں بلندی ہوگی مسجد میں بیٹھ کر اسے امرتہ روزانہ پڑھنے سے دل گناہوں سے پاکیزہ ہو جائے گا ہر قسم کے امتحان میں کامیابی یا کسی اور مقصد میں کامیابی کے لئے اس درود شریف کو ہر نماز کے بعد ۲۱ مرتبہ چالیس دن تک پڑھا جائے انشاء اللہ جیسا بھی امتحان یا مقصد ہو گا اس میں کامیابی ہوگی۔ درود العابدین یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ مِّثْلَ

اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اتنی رحمت نازل کر

الدُّنْيَا وَمِثْلَ الْاٰخِرَةِ وَاَرْحَمُ مُحَمَّدًا وَاٰلِ

کہ دنیا اور آخرت بھر جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو

مُحَمَّدٍ مِّثْلَ الدُّنْيَا وَمِثْلَ الْاٰخِرَةِ وَاَحْبَزِ

اتنی جزاؤں سے کہ اس سے دنیا اور آخرت بھر جائے اور

مُحَمَّدًا وَإِٰلَٰهٖ مُحَمَّدٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَمِنْ عَٰ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اتنی

الْآخِرَةِ وَسَلَّمَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

سلامتی عطا کر کہ دونوں

مُحَمَّدٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَمِنْ عَٰلِ الْآخِرَةِ ۝

جہاں بھر جائیں

درود العارفين

عارف کے معنی پہچان کرنے والا۔ اللہ کی وحدانیت کی پہچان اور خود اپنی پہچان رکھنے والا۔ عارف کا درجہ اور عارف کی منزل ولی سے کہیں زیادہ اور بالا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اس کو دین و دنیا کا سب کچھ مل گیا وہ کچھ ملا کہ اولیاء اللہ اور بڑے بڑے بزرگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ولی اپنے معتقد کو جنت کا راستہ دکھلائے گا لیکن عارف اسے لے جا کر جنت میں پہنچا کر ہی آئے گا۔ عارف کو اللہ تعالیٰ نے جس زیور سے سجایا ہے وہ ہے ”عشق“ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص پیار عارفوں کیلئے ہے۔ درود العارفين پڑھنے سے عارف کا رتبہ حاصل ہو سکتا ہے یہ وہ خزانہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے درود العارفين کے لئے فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس یہ درود شریف ہو اور وہ نہ سکھلائے اپنے مسلمان بھائیوں کو پس وہ مجھ ﷺ سے دور ہے اور میں ﷺ اس سے دور ہوں۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ درود العارفين کو آپ ﷺ نے ترک کیا ہو۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن حکیم کو یاد نہیں کر سکتا تھا پس رسول اکرم ﷺ نے مجھ کو درود العارفين سکھایا پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قرآن شریف کا حفظ عطا کیا۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درود العارفين کے ساتھ جو کوئی شخص دعائے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے ستر دروازے مصیبت و عذاب اور آفات کے بند کر دے گا۔

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مصیبت ہے اس شخص کے لئے جو پڑھے (یا دکرے) درود العارفين کو پھر بھول جائے (چھوڑ دے) جس نے بھلا دیا درود العارفين کو بے شک اس نے اپنی عمر کا نقصان کیا یعنی اپنی ساری عمر برباد کر دی۔

درود العارفين کے پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ کتنا بڑا ثواب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ سَمَّيْتَهُ ذَاكِرًا وَحَبِیْبًا

اے اللہ درود بھیج اس ذات پر جس کا نام رکھا تو نے ذاکر۔ حبیب

وَمُذَكِّرًا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور مذکر۔ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود بھیج

عَلٰی مَنْ سَمَّيْتَهُ اَحْمَدًا وَمُحَمَّدًا وَسَيِّدًا

اس ذات پر جس کا نام رکھا تو نے احمد اور محمد (ﷺ) اور سردار

مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ

محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اس ذات پر

سَمَّيْتَهُ صَابِرًا وَنَبِيًّا وَرَاقِبًا مُحَمَّدٌ

جس کا نام رکھا تو نے صابر۔ نبی اور راقب محمد (ﷺ)

رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ سَمَّيْتَهُ

اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اس ذات پر جس کا نام تو نے رکھا

غَالِبًا وَرَحِيْمًا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

غالب اور رحیم۔ اور طیم محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَمَّيْتَهُ عَاقِبًا وَكَرِيمًا وَ

اے اللہ درود بھیج اس ذات پر جس کا نام تو نے رکھا عاقب اور کریم اور

حَكِيمًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

حکیم محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اس ذات پر

عَلَى مَنْ سَمَّيْتَهُ عَدَلًا وَجَوَادًا وَمُزْمَلًا

جس کا نام تو نے رکھا عادل اور جواد اور منزل

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اس ذات پر

سَمَّيْتَهُ قَائِمًا وَمَهْدِيًا وَهَادِيًا مُحَمَّدٌ

جس کا نام تو نے رکھا قائم اور مہدی (ہدایت یافتہ) اور ہادی محمد (ﷺ)

رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَمَّيْتَهُ

اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اس ذات پر جس کا نام تو نے رکھا

شَكُورًا وَحَرِيصًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ

شکور اور حریص (مخلوق کی بھلائی چاہنے والا) محمد (ﷺ) اللہ کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَمَّيْتَهُ قَائِمًا

رسول ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اس ذات پر جس کا نام تو نے رکھا قائم

وَحَفِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ

حفی (باخبر) اور عبد اللہ۔ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَمِيَتْهُ شَاهِدًا وَ

اے اللہ درود بھیج اس ذات پر جس کا نام تو نے رکھا شاہد اور

بَصِيرًا وَمَهْدِيًّا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ

بصیر اور مہدی محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَمِيَتْهُ بَاهِيًّا وَ

اے اللہ درود بھیج اس ذات پر جس کا نام تو نے رکھا باہی (خوش رہنے والا) اور

نُورًا أَوْ مَكِيًّا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ

نور اور مکی محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَنْ سَمِيَتْهُ شَاكِرًا وَوَلِيًّا وَ

درود بھیج اس ذات پر جس کا نام تو نے رکھا شاکر اور ولی اور

نَذِيرًا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

نذیر محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اس ذات

عَلَى مَنْ سَمِيَتْهُ طَاهِرًا وَصَفِيًّا وَمُخْتَارًا

پر جس کا نام تو نے رکھا طاہر اور صفی اور مختار

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ

محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اس ذات پر

سَمِيَّتَهُ بُرْهَانًا وَصَحِيحًا وَشَرِيْفًا

جس کا نام تو نے رکھا برہان اور صحیح (درست کرنے والا) اور شریف

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ

محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اس ذات پر

سَمِيَّتَهُ مُسْلِمًا وَرُفًا شَرِيْفًا مُحَمَّدًا

جس کا نام تو نے رکھا مسلم اور رؤف اور رحیم محمد (ﷺ)

رَسُوْلُ اللهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ سَمِيَّتَهُ

اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اس ذات پر جس کا نام

مُؤْمِنًا وَحَلِيْمًا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ اَللّٰهُمَّ

تو نے رکھا مؤمن اور حلیم محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى مَنْ سَمِيَّتَهُ قِيْمًا وَمَحْمُوْدًا وَ

درود بھیج اس ذات پر جس کا نام تو نے رکھا قیم اور محمود اور

حَامِدًا اَمْحَمَدٌ رَسُوْلُ اللهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

حامد محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اس ذات پر

عَلَى مَنْ سَنَيْتَهُ مِصْبَاحًا وَامْرًا وَنَاهِيًا

جس کا نام تو نے رکھا مصباح (روشن چہرہ) اور آمر (علم کرنے والا) اور

مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

ناہی (منع کرنے والا) محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی

عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَنْزُ واجِبِهِ وَ

ان پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر اور ان کی ازواج مطہرات پر اور

ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ كُلِّ

ان کی اولاد پر اور ان کے اہل بیت پر اور اللہ تعالیٰ تمام

الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ ○

صحابہ سے راضی ہو گیا

درود ثمرات

جو شخص یہ درود شریف پڑھے گا اللہ سے دنیاوی ثمرات سے نوازے گا اور اسکے رزق میں خوب اضافہ ہوگا۔ علامہ سخاری فرماتے ہیں کہ رشید عطار نے بیان کیا کہ مصر میں ایک بزرگ تھے جن کا نام ابوسعید خیاط تھا۔ وہ اکیسے رہتے تھے لوگوں سے میل جول بالکل بند تھا کچھ عرصے کے بعد ابوسعید خیاط کو لوگوں نے حضرت ابن ریف کی مجلس میں بہت کثرت سے آتے جاتے دیکھا لوگوں کو اس پر تعجب ہوا اور ان سے دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضور

اقدس ﷺ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آپ ﷺ نے حکم فرمایا کہ اپنے رفیق کی مجلس میں جایا کرو اس لئے کہ وہ اپنی مجلس میں مجھ ﷺ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد ﷺ پر جتنے

عَدَدَ اَوْ رَاقِ الزَّيْتُوْنَ وَجَمِيعِ الشُّمَارِ

زیتون کے پتے ہیں اور جتنے پھل ہیں

درود رفاعی

یہ درود حضرت سید احمد کبیر رفاعیؒ کا ہے اور انہوں نے اسے اپنی کتاب المعارف الحمدیہ میں لکھا ہے آپ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور اسی بنا پر آپ کو قطبِ زمان کا بلند مقام حاصل ہوا آپ نے اس درود پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ درود اسرار و رموز اور معرفت حاصل کرنے کے لئے بہترین وسیلہ ہے جو شخص اسے روزانہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے گا اس کے ایمان میں استقامت پیدا ہوگی اور وہ دنیا سے صاحبِ ایمان ہی جائے گا یعنی اس کا دل نورِ ایمان سے منور ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اسے کثرت سے پڑھتا رہے تو اسے سعادتِ عظمیٰ حاصل ہوگی

اور اس کی ہر دعا فوراً مستجاب ہوگی و ساوس برائیوں اور مصیبتوں سے نجات ملے گی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔

ذیل کا درود ۴۱ دن تک بلا ناغہ ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے انسان تمام بری عادتوں اور گناہوں سے بچ جائے گا اور پڑھنے والے کو اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا کرے گا اس درود پاک کا ایک اور فائدہ یہ ہے اسے پڑھنے سے سکون اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے اور عبادت میں خوب دل لگنے لگتا ہے اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کی خواہش رکھتا ہو مگر حج کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو ہر جمعرات کو ۱۰۰ مرتبہ درود پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرے اور گیارہ جمعرات تک اسی طرح کرے اللہ اس کا بہتر ذریعے سے سبب بنا دے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی نُوْرِكَ

اے اللہ درود و سلام اور برکت فرما اپنے نور اولین پر اور

الْأَسْبَقِ وَصِرَاطِكَ الْمُحَقَّقِ مَنْ

صراط تیرا اپنے ثابت پر ، جس کو

أَبْرَزْتَهُ رَحْمَةً شَامِلَةً لِيُجُودِكَ وَ

تو نے ظاہر کیا ہے رحمت جو شامل ہے تیرے وجود کو، اور

أَكْرَمْتَهُ بِشُهُودِكَ وَأَصْطَفَيْتَهُ لِنُبُوءِكَ

عزت دی تو نے اسے اپنے شہود کی اور چن لیا تو نے ان کو اپنی نبوت

وَرِسَالَتِكَ وَأَرْسَلْتَهُ بِشِيرًا وَنَذِيرًا وَ

سے اور رسالت سے اور بھیجا تو نے ان کو بشارت دینے والا اور ڈرسانے

دَاعِيًا إِلَيْكَ يَا ذُنُوبَكَ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

والا اور بلانے والا تیری طرف تیرے ان سے اور چراغ روشن نقطہ

نُقْطَةً مَرَكِزِيَّةً الدَّائِرَةِ الْأُولَى

مرکز بار دائرہ اولیہ کا

وَسِرِّ اسْرَارِ الْأَلْفِ الْقُطْبِيَّةِ الَّذِي

اور بھید الف قطبیت کے بھیدوں کو جس نے کھول

فَقُتِّبَتْ بِهِ وَثُقُّ الْوُجُودِ وَخَصَّصَتْهُ

دیا اس سے بندش وجود کی اور خاص کیا تو نے

بِأَشْرَفِ الْمَقَامَاتِ الْمَوْهَبِ الْإِمْتِنَانِ

ان کو بہترین مقامات سے عطاءئے احسان اور

وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَأَقْسَمَتْ بِحَيَاتِهِ

مقام محمود اور قسم ذکر کی تو نے

فِي كَلَامِكَ الْمَشْهُودِ لِأَهْلِ الْكُشْفِ

آپ کی زندگی کی اپنی کلام میں جس کی گواہی دیتے ہیں اہل کشف اور

وَالشَّهُودِ فَهُوَ سِرُّكَ الْقَدِيمِ السَّارِي

شہود پس وہ تیرے قدیم سراپت کرنے والے بھید ہیں اور

وَمَا جَوْهَرِ الْجَوْهَرِيَّةِ الْجَارِي الَّذِي

پانی جو ہریت کے جوہر کا جو جاری ہے جس سے زندہ کیا

أَحْيَيْتَ بِهِ الْمَوْجُودَاتِ مِنْ مُعْدِنِ

تو نے موجودات کو چاہے وہ معدنی ہوں ،

وَحَيَوَانٍ وَنَبَاتٍ فَهُوَ قَلْبُ الْقُلُوبِ وَ

حیوانی ہوں ، نباتی ہوں پس وہ دلوں کے دل اور

رُوحِ الْأَمْرِ وَاحِدٌ وَعَلَمُ الْكَلِمَاتِ الطَّيِّبَاتِ

روحوں کی روح علامت ہیں کلمات طیبات کی

الْقَلَمُ الْأَعْلَى وَالْعَرْشُ الْمَحِيطُ رُوحُ

قلم اعلیٰ اور عرش محیط روح

جَسَدِ الْكُونَيْنِ وَبِرْزَخِ الْبَحْرَيْنِ

کونین کے جسم کی اور برزخ دونوں سمندروں کا اور

وَتَايِيِ اثْنَيْنِ وَفَخْرُ الْكُونَيْنِ

دو کا دوسرا اور فخر کونین کے

أَبُو الْقَاسِمِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ابوالقاسم سردار ہمارے محمد ﷺ بن عبد اللہ

بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَبْدُكَ وَنَبِيِّكَ وَ

بن عبدالمطلب تیرے بندے اور نبی اور

رَسُولُكَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ

رسول نبی امی اور آپ کی آل اور صحابہ پر

وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا بِقَدْرِ عَظَمَتِكَ فِي

اور سلام ہو بقدر تیری ذات کی عظمت کے ہر وقت اور

كُلِّ وَقْتٍ وَحِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ

آن میں ہر جگہ ہے تیرے رب، رب العزت کی

الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝

اس سے جو لوگ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو سب رسولوں پر

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور سب تعریف واسطے اللہ کے جو پالنے والا جہانوں کا ہے

درود تعلق

حضور ﷺ کی ذات اقدس پر کثرت اور متواتر یہ درود پاک

پڑھنے سے حضور ﷺ کے ساتھ ایک خاص تعلق اور رابطہ پیدا ہو

جائے گا کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص مجھے ﷺ

بہت پسند ہے جو مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے اس طرح متواتر درود پاک کے ورد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک خاص نسبت پیدا ہو جائے گی چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے کے درود کو سنتے اور دیکھتے ہیں اور پھر نظر شفقت فرماتے ہیں لہذا جو شخص یہ درود پاک کو ہمیشہ پڑھے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر انور کی بدولت ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کر خوش قسمتی یہ ہے کہ میدان حشر میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی رَسُوْلِكَ

اے اللہ درود سلام اور برکت بھیج اپنے رسول رحمت العالمین پر جو

الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ

مبعوث کئے گئے اور آپ کی آل اور صحابہ پر بھی

درود شفا ئے قلوب

درود شفاء پڑھنے سے روحانی و جسمانی بیماریوں کو شفاء ملتی ہے

خاص کر جس شخص کو شیطانی وسوسہ بہت تنگ کرتا ہو اور نیک کاموں پر مائل ہونے میں نفس رکاوٹ ڈالتا ہو۔ تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے سے سب وسوسے ختم ہو جائیں گے ایسی جسمانی بیماری جس کا طبیبوں سے علاج نہ ہوتا ہو اس کے لئے اس درود پاک کو ۴۰ دن تک روزانہ ۱۰۰ مرتبہ پڑھو انشاء اللہ بیماری کا بہتر حال کر دے گا اس کے علاوہ یہ درود امراض دل کے لئے بہت اکیر ہے لہذا جو شخص دل کے کسی مرض میں مبتلا ہو تو اسے چاہئے کہ ۳۱۵ مرتبہ ادن تک بعد نماز فجر پڑھے انشاء اللہ دل کی ہر قسم کی بیماری سے نجات مل جائے گی اسی لئے اس درود کو درود شفاءِ قلوب کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ ضیاء الدین احمد مدنیؒ بھی اس درود پاک کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ

يا الله درود بھیج ہمارے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دلوں کے طبیب

الْقُلُوْبِ وَدَوِّ اَيْهَا وَعَافِيَةِ الْاَبْدَانِ

اور ان کی دوا ہیں اور جسموں کی عافیت اور ان کی قفا ہیں اور

وَشِفَائِهَا نُورٌ اِلَّا بَصَارٍ وَضِيَاءُهَا وَعَلَى

آنکھوں کا نور اور ان کی چمک ہیں اور آپ

اِلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ط

کی آل اور اصحاب پر درود سلام بھیج۔

درود اعزاز

سعادت دارین میں ہے کہ حضرت شریف نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت شیخ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متوسلین میں سے تھے فرمایا میں نے خواب میں سید دو عالم ﷺ کو دیکھا ایک بڑے خیمہ میں جلوہ گر ہیں اور امت کے اولیاء کرام حاضر ہو کر یکے بعد دیگرے سلام عرض کر رہے ہیں اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں؟ ولی اللہ ہے اور یہ فلاں ہے اور آنے والے حضرات سلام عرض کر کے ایک جانب بیٹھتے جاتے ہیں۔

حتیٰ کہ ایک جم غفیر اور بہت سارے لوگ اکٹھے آ رہے ہیں اور خداوینے والا کہہ رہا ہے یہ محمد حنفی آ رہے ہیں جب وہ سید العالمین

اکرم الاولین والآخرین ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آقائے دو جہاں ﷺ نے انہیں پاس بٹھالیا۔ پھر سید دو عالم ﷺ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا میں ﷺ اس سے محبت کرتا ہوں مگر اس کی پگڑی جو کہ بغیر شملہ کے ہے اور محمد حنفی کی طرف اشارہ فرمایا۔

یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی۔ ”یا رسول اللہ ﷺ“ اجازت ہو تو میں اس کے سر پر پگڑی باندھ دوں؟ فرمایا ﷺ ”ہاں!“ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا عمامہ مبارک لے کر حضرت محمد حنفی کے سر پر باندھ دیا اور بائیں جانب شملہ چھوڑ دیا۔

یہ خواب ختم ہوا اور جب حضرت شریف نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب حضرت محمد حنفی رضی اللہ عنہ کو سنایا تو وہ ان کے ہم نشین سب آبدیدہ ہو گئے۔ پھر حضرت محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ شریف نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آئندہ جب آپ کو سید دو عالم ﷺ کی زیارت نصیب ہو تو آپ عرض کریں کہ محمد

حنفی کے کون سے عمل کی وجہ سے یہ نظر عنایت ہے۔“

پھر کچھ دنوں کے بعد شیخ شریف نعمانی زیارت کی نعمت سے سرفراز ہوئے اور وہ عرض پیش کر دی۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”وہ جو درود پاک ہر روز مجھ ﷺ پر خلوت میں مغرب کے بعد پڑھتا ہے اور وہ یہ ہے۔“

اور جب یہ واقعہ حضرت محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ نے سچ فرمایا اور پھر پگڑی لی اور اس کو سر پر باندھا اور اس کا شملہ چھوڑا پھر سب نے اپنی اپنی پگڑیاں اتاریں اور دوبارہ باندھیں اور ان کے شملے چھوڑے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الدُّمِيِّ وَ

اے اللہ محمد امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ

عَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا

کے صحابہ پر درود اور سلام بھیج اتنی تعداد میں جس

عَلِمْتَ وَزِنَةَ مَا عَلِمْتَ وَمِنْ مَا عَلِمْتَ ۝

کا شمار تیرے اندازے اور علم کے مطابق ہو۔

درودِ دوائی

درودِ دوائی پڑھنے والے کو ان گنت نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور جو شخص اس درودِ پاک کو کثرت سے پڑھے اسے اپنی قوم، رشتہ دار اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بے پناہ شہرت اور عزت ملے گی۔ اور اگر وہ یہ درود پڑھ کر کسی حاکم کے سامنے جائے تو وہ اس کی عزت کرے گا۔ یعنی اس درود شریف کے پڑھنے والے کے سامنے دنیا تسخیر ہوتی چلی جاتی ہے جو شخص اسے روزانہ ۲۱ مرتبہ تاحیات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور اس کی نیکیوں میں بارش کے قطروں کے برابر اضافہ کر دے گا اور اس کا نام تاقیامت زندہ رہے گا حتیٰ کہ اس پر اللہ اپنی رحمت کے اتنے دروازے کھول دے گا کہ جو وہ اللہ سے مانگے سو پائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً دَائِمَةً مُّسْتَبْرَكةً

اے اللہ! درود بھیج ان پر ایسا درود جو دائمی ہو اور جس کا دوام جاری

الدَّوَامِ عَلَى مَرِّ اللَّيْلِ وَالْأَيَّامِ مُتَّصِلَةً

رہنے والا ہو گردش لیل و نہار کے ساتھ اور اس کا دوام متصل ہو جس کی

الدَّوَامِ لَا انْقِضَاءَ لَهَا وَلَا انْصِرَامَ عَلَى مَرِّ اللَّيْلِ

کوئی نہایت نہ ہو اور جس کا انقطاع نہ ہو گردش لیل و نہار کے ساتھ

وَالْأَيَّامِ عَدَدَ كُلِّ وَابِلٍ وَوَطِيطٍ

بشمار بارش اور شبیم کے ہر قطرہ کے

درود الصادقین

یہ درود انوار و اسرار اور معرفت کی کنجی ہے جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس پر اسرار ربانی کی راہیں کھل جائیں گی یہ درود ایک طرح کا اسم اعظم ہے اور اسے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مقام صداقت سے نوازتا ہے یعنی جو بات اس کے منہ سے نکلتی ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اسے شب قدر میں ساری رات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ کیونکہ یہ درود ایک لحاظ

سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور جو شخص اس درود پاک کو ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام پڑھنے کا معمول بنالے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کا ذمہ خود لے لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد ﷺ پر جو حکم اور

الْحُكْمِ وَالْحِكْمَةِ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ

حکمت کے نبی ہیں جو روشن چراغ ہیں اور مخصوص کئے گئے

الْمُخْصُوصِ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ وَخْتَمِ

ہیں خلیق عظیم کے ساتھ نبیوں کے خاتم ہیں

الرُّسُلِ ذِي الْمِعْرَاجِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

معرراج والے ہیں اور آپ کی آل پر اور اصحاب

وَأَتْبَاعِهِ السَّالِكِينَ عَلَىٰ مَنْهَجِهِ الْقَوِيمِ

پر اور آپ کے پیروؤں پر جو چلنے والے ہیں آپ کے سیدھے راستے پر

فَاعْظَمِ اللَّهُمَّ بِهِ مِنْهَا جُجُومَ الْإِسْلَامِ

اور معظّم کروے اے اللہ آپ کی برکت سے راستہ اسلام کے ستاروں کا

وَمَصَابِيحِ الظُّلُمِ وَاللَّهُتَدِي بِهِمْ فِي

اور اندھیروں کے چراغوں کا جن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے شک کی

ظُلْمَةِ الشَّقِ الدَّارِ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ

اندھیری رات کی تاریکی میں ایسا درود جو ہمیشہ رہنے والا پے درپے

مُسْتَمِرَّةٌ مَّاتَلَا طَمَتْ فِي الْأَبْحَرِ الْأَمْوَاجِ

ہو جب تک متلاطم رہیں بہمنڈوں میں لہریں اور طواف کرتے

وَطَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقِ

رہیں کعبہ شریف کا ہر دور دراز گھاٹی سے آنے

نِ الْحُجَّاجِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ

والے حاجی اور افضل ترین درود و سلام ہوں

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ الْكَرِيمِ

حضرت محمد ﷺ پر جو اللہ کے رسول کریم ہیں اور اس کے

وَصَفْوَتِهِ مِنَ الْعِبَادِ وَشَفِيعِ الْخَلَائِقِ

بندوں سے چنے ہوئے ہیں اور ساری مخلوق کے شفیع ہیں قیامت

فِي الْبَيْعَادِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَ

کے دن اور صاحب مقام محمود ہیں اور اُس حوض کے مالک

الْحَوْضِ الْمَوْرُودِ النَّاهِضِ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ

ہیں جس پر سب لوگ آئیں گے جو اٹھانے والے ہیں رسالت اور تبلیغ

وَالْتَّبْلِيغِ الْأَعْمَرِ وَالْمَخْصُوصِ بِشَرَفِ

عام کے بار ہائے گراں کو اور مخصوص ہیں اس گوشش کے

السَّعَايَةِ فِي الصَّلَاحِ الْأَعْظَمِ

شرف سے جس میں لوگوں کی بڑی بھلائی ہے

درود الزاہدین

یہ درود زاہد متقی پرہیزگار حضرات کا مستعمل درود شریف ہے

کیونکہ اسے پڑھنے والا زہد و تقویٰ کی راہ پر گامزن رہتا ہے اور

حضور ﷺ کی خصوصی توجہ ہو جاتی ہے اور جس پر حضور ﷺ کی

توجہ ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ لہذا جو شخص یہ درود کثرت سے پڑھے گا اسے بے پناہ عزت اور برکت حاصل ہوگی اور زہد و تقویٰ میں بے مثل ہو جائے گا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد ﷺ

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكِرَامِ مِنْ

ہمراہ اور ہمارے محمد ﷺ آقا کی آل پر جو تیرے بندوں میں بزرگ ترین

عِبَادِكَ وَأَشْرَفِ الْمُنَادِينَ لِطُرُقِ رَشَادِكَ

لوگوں سے بزرگ تر ہے اور پکارنے والوں میں سے اشرف ہے جو تیری ہدایت

وَسِرَاجِ أَقْطَارِكَ وَبِلَادِكَ صَلَوَةٌ لِتَفْنِي

کے راستوں کی طرف بلاتے ہیں اور تیرے ملکوں اور شہروں کا آفتاب

وَلَا تَبِيدُ تَبْلِغُنَا بِهَا كَرَامَةَ الْمَزِيدِ ○

ہے ایسا درود جو تہ فنا ہو اور نہ ختم ہو پہنچا تو ہمیں اس کی برکتوں سے مزید بڑھتا ہو

درود الطالبین

یہ درود طالبان حق کا توشہ ہے لہذا جو شخص یہ چاہے کہ وہ رضائے الہی کا سچا طالب بنے اور اللہ اس سے راضی ہو تو اسے چاہئے کہ وہ درود اپنے معمولات میں شامل کر لے اور اسے کثرت سے پڑھے۔ کیونکہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تین اعمول تحفوں سے نوازتا ہے پہلا تحفہ یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی خصوصی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور دوسرا تحفہ یہ ہے کہ اللہ اس پر اپنا روحانی فضل و کرم کرتا ہے اور وہ حصول روحانیت کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی شفقت سے نوازتا ہے اور وہ عالم روحانیت میں ترقی پاتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس درود پاک کو ۷۰ مرتبہ روزانہ اکتالیس دن تک پڑھنا حاجت پوری ہونے کے بہت مجرب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِهِ

اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ ہمارے آقا محمد ﷺ پر بشمار اپنی مخلوق کے اور

وَرِضًا نَفْسِهِ وَزِينَةً عَرْشِهِ وَمِدَادًا

بمقدار اپنی رضا کے اور بوزن اپنے عرش کے اور اپنے کلمات کی سیاہی کے

كَلِمَاتِهِ وَكَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَكَلِمًا

برابر اور جس طرح وہ اُن کے شایان شان ہیں اور جب کہ یاد کریں آپ کو یاد

ذِكْرُهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنِ ذِكْرِهَا الْغَافِلُونَ

کرنے والے اور غافل رہیں آپ کے ذکر سے غفلت برتنے والے اور آپ

وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِثْرَتِهِ الظَّاهِرِينَ

کی اہل بیت پر اور آپ کی پاک اولاد پر

وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

اور سلام بھیجے۔

درود مکاشفہ

یہ درود صاحب کشف بنے کے لئے بہت موثر ہے کیونکہ اسے پڑھنے سے کشف ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرشد سے اجازت طلب کریں اجازت ملنے پر اس درود پاک کی چالیس دن تک دعوت پڑھو کی خلوت کے مقام پر بیٹھ کر یہ درود ۳۱۲۵ مرتبہ روزانہ پڑھو دن میں روزہ رکھو جوں جوں دن

گزرتے جائیں گے تو تصور پختہ ہوتا چلا جائے گا آخر کار پیغمبروں کی زیارت ہوگی بلکہ جس روح کی بھی زیارت کو دل چاہے گا وہی زیارت ہو جائے گی اور اگر کوئی شخص حج کے دنوں میں مقام ابراہیم پر اس درود پاک کو روزانہ ۱۰۰ مرتبہ اداں تک پڑھے تو اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! درود و سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر جو

نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ ۝ وَسَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ

تیرے نبی ہیں، تیرے رسول ہیں اور ہمارے سردار ابراہیم پر جو تیرے

خَلِيْلِكَ وَصَفِيْكَ وَسَيِّدِنَا مُوسٰى كَلِيْمِكَ

خلیل ہیں اور برگزیدہ ہیں اور ہمارے سردار موسیٰ پر جو تیرے کلیم اور

وَ نَجِيْبِكَ ۝ وَسَيِّدِنَا عِيْسٰى رُوْحِكَ وَ

تیرے ہمزاد ہیں اور ہمارے سردار عیسیٰ پر جو تیری روح اور تیرا کلمہ

كَلِمَتِكَ وَ عَلٰی جَمِيْعِ مَلٰئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ

ہیں اور اپنے جملہ فرشتوں پر اور اپنے رسولوں پر اور اپنے نبیوں

وَأَنْبِيَائِكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَأَصْفِيَاءِكَ

اور اپنی خلق سے چنے ہوئے لوگوں پر اپنے برگزیدہ بندوں پر اور

وَخَاصَّتِكَ وَأَوْلِيَاءِكَ مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ ۝

اپنے ناسوں پر اور اپنے دوستوں پر جو تیری زمین میں بستے ہیں یا تیرے آسمان میں بستے ہیں

درود مکرم

یہ درود بہترین فوائد کا حامل ہے۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھے اسے اللہ کی طرف سے پانچ انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ کہ پڑھنے والے پر پراسرار اور موزن ظاہر ہونگے اور اسے سچے خواب آئیں گے۔ دوسرا انعام یہ کہ اسے گھریار میں عزت حاصل ہوگی۔ تیسرا انعام یہ کہ اس سے اللہ راضی ہو جائیگا۔ چوتھا انعام یہ اسے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوگی اور پانچواں انعام یہ کہ اسکے گھر، کاروبار اور دیگر کاموں میں برکت پیدا ہو جائیگی۔ شیخ المشائخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات کو تین ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے اور اس کے بعد سوتے۔

امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب ”مسند الفردوس“ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”تفسیر روح البیان“ میں یہ حدیث شریف درج کی ہے کہ نبی کریم ﷺ مسجد میں تشریف لائے اور ایک

ستون کے نزدیک بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ ﷺ کے برابر بیٹھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر آذان دینا شروع کی جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ (ﷺ) کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو اکٹھا کیا چوما اور آنکھوں کو لگایا۔ دعا اور درود شریف پڑھا۔ نبی کریم ﷺ نے دیکھا اور بعد آذان فرمایا ﷺ نے جو کوئی بھی ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی طرح میرا نام نامی محمد (ﷺ) آنے پر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں کو لگائے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیگا۔ اس پر مجھ ﷺ کی شفاعت حلال ہوگی اور وہ شخص جنت میں اگلی صفوں میں میرے ﷺ کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ - اے میرے سب مسلمان بھائیو! ایسا ہی عمل کرو اور اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ (آمین) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ بِحَبْرٍ

اے اللہ درود بھیج حضرت محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کی آل پر جو تیرے

اَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَ

انوار کا سمندر ہیں اور تیرے سراسر ارکی کان ہیں جو تیری توحید کی دلیل کی زبان

عُرْوَسِ مَمْلَكَتِكَ وَإِمَامِ حَضْرَتِكَ وَخَاتِمِ

ہیں اور تیری مملکت کے دولہا ہیں اور تیری بارگاہ عزت کے امام ہیں اور تیرے انبیاء

أَنْبِيَائِكَ صَلَوَةٌ تَدُومُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ

کے خاتم ہیں ایسا درود جو ہمیشہ رہے تیرے دوام تک اور باقی رہے تیری بقا تک

صَلَوَةٌ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضِي بِهَا عَنَا

ایسا درود جو راضی کر دے حضور ﷺ کو اور راضی ہو جائے

يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ۝ اللَّهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ

تو اسکی برکت سے ہم سے یا ارحم الراحمین اے اللہ اے مالک حلال

وَالْحَرَمِ وَرَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ

و حرام اور مالک مشعر حرام کے اور مالک بیت الحرام

الْحَرَامِ وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ أَيْبُلُغُ لِسَانِنَا

کے اور مالک رکن اور مقام کے پہنچا ہمارے آقا ﷺ اور

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِنَّا السَّلَامُ

مولا محمد ﷺ کو ہماری طرف سے سلام

درود سید المرسلین

روایات میں مذکور ہے کہ حضور ﷺ نے یہ درود پاک بھی پڑھا ہے اور صحابہ کرام کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے لہذا جو شخص صبح و شام یہ درود پڑھے گا بے پناہ ثواب پائے گا اور سعادت دارین حاصل کرے گا۔ کیونکہ اس درود پاک کے الفاظ دینی و دنیاوی فلاح کے لئے بہت موثر ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

اے اللہ اپنے (برگزیدہ) بندے اور اپنے رسول نبی امی سیدنا محمد

النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ﷺ کی اولاد پر درود نازل فرما اے اللہ سیدنا محمد

عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُوْنُ

ﷺ اور سیدنا محمد ﷺ کی اولاد پر ایسا درود نازل فرما جو

لَكَ رِضٰی وَوَلَهُ جَزَاءٌ وَّلِحَقِّهٖ اَدَاءٌ وَّاعْطِهٖ

تیری رضا کا فریضہ ہو اور حضور کے لیے پورا بدلہ ہو اور آپ

الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْبُودَ

کے حق کی ادائیگی ہو اور آپ کو وسیلہ اور فضیلت اور مقام محمود عطا فرما

الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْرَهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

وعدہ کیا ہے جس کا تو نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

وَأَجْرَهُ أَفْضَلُ مَا خَرَزَيْتَ نَبِيًّا عَن قَوْمِهِ

ہماری طرف سے ایسی جزا عطا فرما جو آپ کی شانِ عالی کے لائق ہو اور آپ

وَرَسُولًا عَن أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ

کو ان سب سے افضل بدلہ عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے اور

إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ

کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمایا اور حضور کے تمام برادرانِ انبیاء

يَا رَحِمَ الرَّحِيمِينَ ○

وصالحین پر اے رحیم الرحیمین درود نازل فرما۔

درود دافع شر و شمنان

درود دافع شر اعدا سے مراد وہ درود شریف ہے جسے پڑھنے سے

انسان دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے اگر کوئی شخص کسی دشمن

کی دشمنی سے بہت تنگ آگیا ہو اور طرح طرح کی اذیتوں اور

پریشانیوں میں مبتلا ہو تو اسے چاہئے کہ اس درود پاک کو روزانہ سو

مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھنا شروع کر دے اور ہمیشہ پڑھتا رہے انشاء

اللہ دشمنوں سے نجات ملے گی۔ اگر کسی دشمن نے جادو اور کالے علم

کی بنا پر روزی کے ذرائع وقتی طور پر روک رکھے ہوں تو پھر اس

درود پاک کو ۴۰ دن تک بعد نماز فجر سو مرتبہ پڑھیں انشاء اللہ دشمن

کے کئے ہوئے تعویذ دھاگے اور علم کا اثر ختم ہو جائے گا اور روزی

کے ذرائع کھل جائیں گے۔ اگر کوئی دشمن ہر وقت زبان درازی کرتا

ہو تو سات جمعرات تک پانی پر اس درود پاک ۷ مرتبہ ہر جمعرات کو

پڑھیں اور دشمن کے مکان کی طرف منہ کر کے اس پانی کے پاکیزہ جگہ

پر چھینٹے لگائیں، انشاء اللہ دشمن زبان درازی چھوڑ دے گا۔ کیونکہ

حدیث نبوی ﷺ ہے کہ جو کوئی بھی ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ

درود شریف پڑھنے والے شخص کی 100 سو حاجتیں پوری کرتا ہے ان میں سے

30 تیس حاجتوں کا تعلق دنیا سے ہے اور 70 ستر حاجتوں کا تعلق آخرت سے

ہے (سبحان اللہ) سادۃ الدارین صفحہ نمبر 60 حیات الانبیاء مصنف امام بہقنی۔

يَا مُدِيلَ كُلِّ جَبَّارٍ عِنْدِيَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

کے ذیل کرنے والے ہر زبردست معاند کے درود بھیج ہمارے آقا و مولیٰ

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ أَقْهَرُ

محمد و صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر اور برکت و سلام۔

بِهَا عَلَى أَعْدَائِنَا وَالزُّمَّهُمْ وَعَجِّلْ إِلَيْهِمْ مَا قَصَدُونِي

اور میرے دشمنوں پر اس درود سے قہر فرما اور ان کی طرف جلدی پہنچا دے

بِي فِي أَمْوَالِهِمْ وَعِزَّتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ○

وہ چیز جو وہ میرے لیے چاہتے ہیں۔ ان کے مال اور عزت اور ان کی جانوں میں اور وہ ان کے زمرے

درود مکین

اس درود پاک کو روزانہ گھر میں ایک مرتبہ پڑھنے سے گھر میں خوشحالی اور سکون رہتا ہے اگر کوئی رشتہ دار بیوی یا اولاد کسی مسئلے میں تنگ کرتی ہو تو اس مرتبہ یہ درود پاک پڑھ کر پانی پر پھونک کر ان کو پانی پلا دیں ہر طرف سے مخالفت ختم ہو جائے گی اور ماحول موافق ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ حسن بھری کا ارشاد ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اسے حوض کوثر سے بھر بھر کر جام پلائے جائیں تو اسے یہ درود پڑھنا چاہئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

آلِ اللّٰهِ دُرُودٌ بِحَسْبِ بَهْرَةِ آقَا مُحَمَّدٍ ﷺ پُر اور آپ کی آل اور

اِلَيْهِ وَاَصْحَابِيْهِ وَاَوْلَادِيْهِ وَاَزْوَاجِيْهِ وَ

اصحاب ، اولاد ، ازواج پر، آپ کی ذریعات اور

ذُرِّيَّتِيْهِ وَاَهْلِ بَيْتِيْهِ وَاَصْحَابِيْهِ وَاَنْصَارِيْهِ

اہل بیت پر، آپ کے مسرل اور انصار پر اور آپ کے فرمانبرداروں

وَأَشْيَاعِيْهِ وَمُحِبِّيْهِ وَأُمَّتِيْهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ

محبت کرنے والوں پر آپ کی ساری امت پر اور ہم پر بھی

أَجْمَعِينَ يَا رَحْمَ الرَّحِیْمِينَ ○

ان تمام کے ساتھ یا ارحم الراحمین

درود مقرب

حضرت ردیف بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

جو شخص درود مقرب پڑھے اسے آخرت میں نبی کریم ﷺ کی

شفاعت لازماً نصیب ہوگی۔ لہذا جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے روز اسے رسول اکرم ﷺ کی شفاعت نصیب ہو تو اسے چاہئے کہ یہ درود روزانہ بعد نماز فجر ۴۱ مرتبہ پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ

اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور قیامت کے دن انہیں

الْمُقَرَّبِ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بلند مقام پر بٹھا جو تیرے نزدیک مقرب ہو۔

درود برکات کثیرہ

یہ درود برکات کثیرہ اور بہت فضیلت کا حامل ہے اور بعض بزرگان کے معمولات میں سے ہے جو شخص اس درود پاک کو صدق دل سے روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھے قیامت کے روز وہ صالحین اور شہدا کے گروہ میں شامل ہوگا یہ درود پاک ثواب کے لحاظ سے بھی بے شمار نیکیوں کے مترادف ہے اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں ہزار ہزار نیکی ملے گی۔ اس دور کے طفیل پڑھنے والے کے تمام

گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں بیماری کی حالت میں اگر یہ درود کثرت سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ صحت بحال کر دے گا قبر میں یہ درود منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت بہت کام آئے گا۔
- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی رَسُوْلِكَ

اے اللہ درود و سلام اور برکت بھیج اپنے چنے ہوئے رسول اور

النُّصْطَفٰی وَنَبِيِّكَ الْمُرْتَضٰی وَعَلٰی اٰلِهِ

اپنے پسندیدہ نبی پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر ہر

وَاصْحَابِهِ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مِّمَّا عَدَدُ

ایک ذرے کے عوض دس

اَلْفِ اَلْفِ مَرَّةٍ

کر دے بار

درود العاشقین

کل انبیاء و مرسلین اور کل کائنات سے بہتر اور افضل ہمارے

پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام

خلقت میں سب سے اول اور کائنات کی اصل ہیں۔ اگر آپ ﷺ کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات ہر گز ہر گز نہ ہوتی۔ زمین و آسمان، لوح و قلم اور کرسی ان سب سے پہلے آقائے نامدار حضرت رسول مقبول ﷺ کے نور کا ظہور ہو چکا تھا تمام انبیاء علیہم السلام حضور ﷺ کی نبوت کی نسبت سے آپ ﷺ کی امت میں داخل ہیں حضور ﷺ پر پیغمبری ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو گا تو وہ بھی حضور ﷺ کی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دین محمدی ﷺ کی تبلیغ کریں گے حضور ﷺ جب معراج کو تشریف لے گئے تو سب کے سب انبیاء کے سردار بن کر نماز پڑھائی۔ سب کے سب انبیاء آپ ﷺ پر ایمان لائے ہیں اور آپ ﷺ پر درود پڑھتے ہیں اور آپ ﷺ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ﷺ ان کے سردار ہیں۔ وہ سب حضور ﷺ کے دین اسلام پر ہیں۔

جس نے حضور ﷺ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی،

حضور ﷺ سے محبت خدا سے محبت ہے۔ حضور ﷺ کا عشق عین

اللہ کا عشق ہے اور عاشق وہ ہستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ رسول
اکرم ﷺ کے بعد سلام بھیجتا ہے اور حضور ﷺ کے بعد اللہ کو

سب سے زیادہ عاشق ہی پیارا ہے عشق ایک چیز ہی عجیب ہے، عاشق
کا مقابلہ کون کرے! عاشق عجیب طاقت ہے۔ عشق آقائے

نامدار ﷺ کے ساتھ ہوگا۔ خود حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے

کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔

گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب

بو جہل تھا قریب مگر دور ہو گیا!

عاشق رسول انشاء اللہ بغیر حساب و کتاب کے سب سے اول
جنت میں جا پہنچے گا۔

دیکھئے عاشقوں کی شان! حضرت ابو بکر صدیقؓ یار غار تھے۔

حضرت عمر بن الخطابؓ خاص خلیفہ تھے۔ حضرت عثمانؓ داماد تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ، چھوٹے بھائی تھے مگر آقائے نامدار ﷺ

نے اپنا خرقہ مبارک صرف عاشق صادق اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو

مرحمت فرمایا اور اس عظیم تحفہ کو حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ خود لے کر حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضور ﷺ نے نہ صرف یہ تحفہ بھیجا بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کی عزت کی اور کہلا بھیجا کہ اولیس سے کہنا کہ امت محمدی ﷺ کی نجات کے لئے دعا کریں اولیس عاشق تھے۔ سبحان اللہ عاشق کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔

اور دیکھئے عاشق کی شان!

حضرت امیر خسروؒ اپنے پیر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پر عاشق تھے۔ عشق سچا تھا اور پائیدار جب وقت مرگ آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے اعلان کیا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں وصیت کرتا کہ مجھ کو اور خسرو کو ایک ہی لحد میں دفن کیا جائے، اللہ اللہ کیا شان کی بات کہی۔

عشق ہو بھی جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے۔ اگر کیا جائے تو عشق کرنے کا آسان طریقہ درود العاشقین کا کثرت سے ورد ہے۔ عشق وہی ہے جو حقیقی اور بامراد ہو، درود العاشقین حقیقی عاشقوں کی معراج ہے۔ ان کا تاج اور ان کے درجات بلند کرنے کا راستہ ہے

اس درود کو پڑھنے والا عاشق یا مراد اور عاشق صادق ہوتا ہے۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَحْبُوْبِنَا

اے اللہ درود اور سلام بھیج ہمارے سردار اور ہمارے محبوب

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا بِنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

اور ہمارے والی محمد ﷺ بن عبد اللہ بن عبد المطلب

الْهَاشِمِيُّ الْقُرَشِيُّ الرَّكِّي الْمَدَنِيُّ الْعَرَبِيُّ وَ

ہاشمی قریشی پاک مدنی عربی پر

عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَحَبِیْبِنَا مُحَمَّدًا بِنِ

اور آپ کی آل پر اور ہمارے حبیب محمد ﷺ بن

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ النَّبِيِّ الْاَرَمِيِّ

عبد اللہ بن عبد المطلب نبی ارمی

الْحِجَازِيِّ الْحَرَمِيِّ بِقَدْرِ حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ

حجازی حرمی پر آپ کے حسن و جمال کے مطابق

درودِ محبتِ رسول ﷺ

یہ درود شریف محبتِ رسول ﷺ پیدا کرنے میں بچلی کی سی تیزی کی طرح کام کرتا ہے۔ درود شریف سے محبت کرنا نبی پاک ﷺ سے ہی محبت کرنا ہے۔ تقاضائے محبت یہی ہے کہ نبی پاک ﷺ کی محبت میں تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ حضرت مسعود دراری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشقِ رسول گزرے ہیں۔ آپ بلادِ فارس کے صلحاء میں سے ہیں نبی پاک ﷺ سے محبت اور درود شریف سے محبت کی آپ ایک انوکھی مثال ہیں۔ آپ کی عادت یہ تھی کہ اُس جگہ جہاں مزدور لوگ آکر بیٹھتے ہیں تاکہ ضرورت مند لوگ ان کو مزدوری کے لئے لے جائیں جاتے۔ اُن کو اپنے مکان میں لے آتے اُن مزدوروں کو یہ گمان ہوتا کہ شاید تعمیر وغیرہ کا کام ہوگا جس کے لئے ہمیں بلایا گیا ہے۔ مگر آپ مزدوروں کو بٹھا کر فرماتے درود پاک پڑھو اور خود بھی ساتھ بیٹھ کر پڑھتے جب عصر کا وقت چھٹی ہونے لگتی تو آپ مزدوروں کو فرماتے اور ٹائم لگاؤ اور پھر ان کو پوری پوری مزدوری دے کر رخصت کرتے۔ حضرت شیخ مسعود اپنی اسی محبتِ رسول ﷺ کی وجہ سے اس مقام پر تھے کہ آپ کو جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں نبی پاک ﷺ کے دیدار سے مشرف ہوتے۔ (سعادت دارین۔ ۱۳۷)

ظاہر ہے یہ مقام اونچے درجوں میں بہت ہی اونچے درجے کا مقام ہے۔ جو کوئی چاہے کہ اسے بھی کوئی اونچا مقام ملے تو اسے درودِ محبتِ رسول ﷺ کثرت سے

پڑھنا چاہئے۔ درودِ محبت رسول ﷺ کی بات ہو یعنی نبی پاک ﷺ کی محبت ہی کی بات ہو تو صحابہ کرام کی محبت رسول ﷺ کا ذکر کرنا بھی لازمی بات ہے۔

لمبے قد والے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نبی پاک ﷺ کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جنگِ احد میں جبکہ حضور اکرم ﷺ کی شہادت کی افواہ سن کر مجاہدین میں ہلچل مچ گئی تھی اور یہیں درہم برہم ہو گئی تھیں۔ اکثر صحابہ کرام پریشانی کے عالم میں جبلِ احد پر چڑھ رہے تھے تو سیدنا طلحہ حضور ﷺ کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی پشت کو سپر بنائے کھڑے رہے۔ پشت مبارک پر تیروں کی بارش ہوتی رہی۔ مگر آپ کے قدم استقلال میں جنبش نہ ہوئی آپ نے آقائے دو جہاں ﷺ کو محفوظ رکھا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی (بخاری شریف)۔

حضرت عمر فاروقؓ کو اپنے زمانہ خلافت میں جب نبی پاک ﷺ کی یاد آتی اور کر آپ اداس ہوتے تو حضرت سیدنا طلحہؓ کو بلا تے اور ان کی قمیض اٹھوا پشت پر ان تیروں کے نشانوں کو چومتے اور فرماتے۔ ”یہ ہے محبت“۔ سبحان اللہ! محبت ہو تو ایسی۔ یا اللہ! ہمیں بھی سیدنا طلحہؓ جیسا جانثار رسول ﷺ بنا اور سیدنا طلحہؓ جیسی محبت رسول ﷺ عطا فرما۔ (آمین)۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَمَحْبُوبِنَا

اے اللہ ہمارے سردار ہمارے حبیب ہمارے محبوب اور ہمارے مولا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

محمد صل اللہ علیہ وسلم پر درود برکت اور سلامتی بھیج

دُرُودِ شَرِيفِ

وہ ذکر ہے
جو فرشتوں زمین پر
کیا جاتا ہے
اور
عرش بریں پر
سنا جاتا ہے۔

چارعالیشان درود شریف

(۱) درود اکبر

(۲) درود مستغاث

(۳) درود کبریت احمر

(۴) درود اکسیر اعظم

درود اکبر

درود اکبر ایک معروف درود شریف ہے جسے اکثر لوگ پڑھتے ہیں اسے درود اکبر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضور ﷺ کی تمام صفات جمیلہ کا ذکر بڑے جامع انداز میں کیا گیا ہے اور یہ درود طویل ہونے کی نسبت سے اکبر کہلاتا ہے اس درود کے آغاز میں لفظ ندا اکثر استعمال کیا گیا ہے اس لئے جو شخص اس درود پاک کو نماز فجر سے پہلے یا بعد میں ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنالے تو اس کے دل میں حضور ﷺ کی بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی آخر زیارت النبی ﷺ سے مشرف ہو گا اور اگر پھر پڑھنے کی تعداد میں اضافہ کر دے تو اس کی ملاقات نفس نفیس حضور ﷺ کی روح مبارک سے ہوگی۔ یہ درود دراصل عاشقان رسول کے دلی جذبات کا ترجمان ہے اس لئے اسے پڑھنے والا سعادت دارین سے مالا مال ہو جاتا ہے اس لئے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ دربار رسالت ﷺ میں مقبول بندہ بن جائے اور اس کی ذابت سے دوسروں کو فائدہ پہنچے تو اسے

چاہئے کہ درود شریف کا عامل بن جائے پھر جس کام کی طرف بھی توجہ کرے گا تو وہ ہوتا چلا جائے گا۔ عامل بننے کے لئے ضروری ہے کہ چالیس رات خلوت میں اس درود پاک کو روزانہ ۲۱ مرتبہ پڑھے انشاء اللہ اس کے دل کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔

دل کی صفائی کے لئے بعد نماز عشاء ایک بار یہ درود پاک پڑھنا بہت موثر ہے بیماری سے شفاء کے لئے بھی یہ درود بہت اچھا ہے آسب اور دفع بلیات کے لئے سات بار پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر آسب زدہ کو پلا دیں آسب دفع ہو جائے گا اور اگر کسی مقام پر جنات کا اثر ہو تو اس مقام پر روزانہ ۴۱ دن تک ایک مرتبہ یہ درود پڑھیں جنات بھاگ جائیں گے۔ ظالم حاکم کے ظلم سے بچنے کے لئے ۱۱۱ ات اسے مسلسل ایک مرتبہ پڑھیں انشاء اللہ بہتر صورت حال پیدا ہو جائے گی اس درود میں غلبہ کے اثرات بھی بہت ہیں اس درود پڑھنے والے پر کوئی غالب نہ ہوگا۔ بعد نماز فجر روزانہ ایک بار پڑھنے سے اضافہ رزق ہوتا ہے اور جو شخص بعد نماز عشاء اس درود

پاک کو ۳ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اکثر بزرگان سلف نے کتب و طائف میں بروایت صحیحہ لکھا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کا وظیفہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ اس درود شریف کے ہر ایک حرف کے عوض ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھیں اور باری تعالیٰ اس کی طرف تین سو ساٹھ بار نظر رحمت فرماوے گا اور اس کے لئے ہزار محل یا قوت کے بنائے گا تو تمام ملائک زمینوں آسمانوں عرش و کرسی کے اس کے جنازہ پر آویں گے اور قیامت تک فرشتے اس کی قبر پر آیا کریں گے اور اس کے واسطے بخشش مانگا کریں گے۔

طریق زکوٰۃ درود اکبر بزرگان سلف نے یوں تحریر فرمایا ہے کہ جمعرات کی رات کو شروع کرے۔ لباس پاک و صاف اور سفید پہنے اور خوشبو بھی لگائے اور پاک و صاف جگہ پر بکمال ادب و احترام دو رکعت نماز نفل ادا کرے اور پھر تین دفعہ یہ درود شریف پڑھے اور یہ بحضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کرے اور صدق دل و

اخلاص نیت سے زیارت جمال بے مثال حضور محبوب خدا ﷺ کی حق تعالیٰ کی ذات کریمہ سے آرزو کرے اور وہیں سوز ہے۔ متواتر گیارہ راتیں اسی طرح وظیفہ کرے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور حق تعالیٰ جل شانہ زیارت آل حضور پر نور ﷺ سے مشرف فرمائے گا۔ ایام زکوٰۃ میں نماز پنجگانہ کی پابندی لازمی ہے۔ اور اس کے بعد روزانہ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد ایک دفعہ پڑھتا رہے۔ دیدار مصطفیٰ ﷺ سے بھی مشرف ہوتا رہے گا اور دینی اور دنیوی نعمتوں اور سعادتوں سے مالا مال ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ۝

درود اور سلام اوپر تیرے لئے رسول اللہ کے

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا نَبِیَّ اللّٰهِ ۝

درود اور سلام اوپر تیرے لئے نبی اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے حبیب اللہ کے
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے خلیل اللہ کے
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے برگزیدہ اللہ کے
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے سب سے بہتر مخلوق اللہ کے
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَكِّيَّ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے مکی اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قُرَيْشِيَّ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے قریشی اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَدَنِيَّ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے مدنی اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اخْتَارَهُ اللَّهُ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے وہ شخص کہ پسند کیا اس کو اللہ نے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ عَظَّمَهُ اللَّهُ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے وہ شخصیت کہ عظمت دی اس کو اللہ نے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے خلیفہ اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُضْرَةَ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے حاضر ہونے والے درگاہ اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ

درود و سلام اُوپر تیرے اے برگزیدہ اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے بُرہان اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے رحمت اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے نور اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے محمد ﷺ رسول اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ النَّجْمِ وَالْبَعْرَاجِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے صاحب تاج اور معراج کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے صاحب حوض اور کوثر کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الشَّفَاعَةِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے صاحب شفاعت کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ النِّعْمَةِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے صاحب نعمت کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے ختم کرنے والے نبوت اور رسالت کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْمَدِينِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے نبی مدینہ والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْحَرَمِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے نبی حرم والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْعَرَبِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے نبی عرب کے رہنے والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْحِجَازِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے نبی حجاز والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ التِّهَامِ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے نبی تہامہ والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْهَاشِمِيِّ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے نبی ہاشمی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْقُرَشِيِّ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے نبی قریشی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الذِّكْرِ

درود اور سلام اوپر تیرے اے نبی پاک

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْأُرْحَىٰ

درود اور سلام اوپر تیرے اے نبی اُمّی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں رسولوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّبِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں نبیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مومنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں پرہیزگاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصُّدِقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں سچوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصَدِّقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں تصدیق کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّابِرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں صبر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں گواہوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَشْهُودِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں حاضر کئے ہوؤں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَابِطِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں جوڑنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْجِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں نجات دلانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَدِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں فلاح والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّالِحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں نیکو کاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصْلِحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں اصلاح کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجِيبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں قبول کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّاهِدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں پرہیزگاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّائِبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں توبہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَائِفِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں ڈرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَاطِفِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں نرمی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَاكِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں (خوف خدا سے) رونے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں قیام کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاِكِعِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں رکوع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاهِدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں سجدہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصَلِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں نمازیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَارِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں قاریوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاعِدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں قعدہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَشْرَهْدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں زاہروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَقِنِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں یقین کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَاجِحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں ہمزازوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَانِعِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں قناعت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَفِظِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں حافظوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجَائِعِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بھوک برداشت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِدِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں حمد کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْشِدِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مُرشدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّظِيرِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں دیکھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبْرِكِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں برکت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَوْجِدِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں موجدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِلِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بولنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَنْصُورِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مدد دینے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّصِيرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مدد کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظُّفَرِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں فتح مندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الوَرِثِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں وارثوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُظْفَرِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں فتح دیئے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَرْسُوقِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں رزق دیئے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّغَبِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں رغبت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشْفِقِيْنَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں شفقت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّاجِدِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں روزہ رکھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّوَّابِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں توبہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَأْلُوفِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں اُلفت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنِيْبِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں رجوع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَبِيدِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عابدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسْكِينِ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مسکینوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَوَافِقِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں موافقوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَافِقِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں نرمی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَائِزِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مُراد کو پہنچنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَمَلِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عمل کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَابِدِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں پناہ لینے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاجِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں نجات پانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظُّهْرِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں پاکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظُّهْرِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں غالب ہونے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الثَّبَعِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں تابع ہونے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاضِلِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں فضیلت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّكْرِيِّينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں شکر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُطَهَّرِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں پاکیزگی پسند کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَطِيعِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں فرمانبرداروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَرْحُومِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں رحم کئے ہوؤں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَغْفُورِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مغفوروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَضِيلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں فضیلت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الطَّالِبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں طالبوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَطْلُوبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مطلوبوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَطَّانِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں پاک کئے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّبَوَامِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں روزہ داروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَوَامِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں قیام کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوَابِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں رجوع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَالِدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں جوڑنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحِبِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں محبت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحِبُّوْبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں دوستوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَوْرُوْدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں وارد ہونے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَقَبُّوْلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مقبولوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشْتَاْقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مشتاقوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَاشِقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عاشقوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعْشُورِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں معشوقوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَارِفِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عارفوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَاعِظِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں واعظوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَذْكُورِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں ذکر کئے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَبِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں تونگروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعْظَمِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عظمت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبْلِغِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مبلغوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَنَادِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں منادی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَدِّبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں ادب کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفَسِّرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں تفسیر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعَلِّمِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں سکھانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعُقَلَاءِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عقل مندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَاذِلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں خرچ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَجْوَدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بڑے سخیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَبِّدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عبادت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَبْعِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں سننے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْرَبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مقربوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحَرِّضِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں رغبت دلانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفْرِحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں خوش کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْتَرِبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں نزدیکی والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَقَابِلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں روبرو بیٹھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسْبُوحِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں تسبیح پڑھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَدَّسِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں پاک لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَلِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَأْمُولِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں اُمید دلائے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحَقِّقِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں تحقیق کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُدَقِّقِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں باریک بینیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدَّاعِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بلانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّابِرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں روزہ داروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْسِنِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں نیکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّكَاةِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں پاکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَامِلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں کاملوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّابِقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں پہلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسْبُوقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں پچھلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعْصُومِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بے گناہوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْفُوظِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں حفاظت کئے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّفَعِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں شفاعت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشْفَعِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں شفاعت قبول کئے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَظِّمِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عظمت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَلَّفِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں اُلفت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَظْهَرِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں غالبوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَصَدِّقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں صدقہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَفَّقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں توفیق دیئے ہوؤں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَافِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں معاف کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَحْزُونِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں غمناکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسْرُورِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں خوش کئے ہوؤں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْزَلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں اتارنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَبَتِّلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں ممتازوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَمِينِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں امن دینے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَوِّاضِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں تواضع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَفَكِّرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں سوچنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبْتُولِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عالموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَجَّلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عزت کے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَجَدِّدِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عالی شان والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَفَاخِرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں فخر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَحَمِّلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں تحمل کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَسِّمِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں داع لگانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاسِمِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں تقسیم کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقِيمِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مقیموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسَافِرِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مسافروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُهَاجِرِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مہاجروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُظْهِرِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں غلبہ دینے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْغَافِرِينَ

یا اللہ! درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بخشنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْهِنِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں حجت قائم کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّابِحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں تسبیح پڑھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں جہانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں فرمانبرداروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں خیر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاظِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں راضی ہونے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّءُوفِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مہربانی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَهَجِّدِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں تہجد پڑھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَغْفِرِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بخشش مانگنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَفِّفِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں سوال سے بچنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِلِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بوجھ اٹھانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ شَفِيعِ الْمَذْنِبِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سفارش کرنے والے ہیں گنہگاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَدَيِّنِينَ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں دین داروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَرْضِيَّاتِ

یا الٰہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں راضی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَادِحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں صفت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَسْرَفِيِّينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بہت بلند مرتبہ والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَشِّرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں خوشخبری دینے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْذِرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں ڈرانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَدَبِّرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں تدبیر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْشِئِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں پرورش کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُخْلِصِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مخلصوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الذَّاكِرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں ذکر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَاضِعِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عاجزی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَاشِعِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں خشوع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاجِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں امیدواروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤْمِلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں تامل کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوْسَرَعِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بڑے برہیزگاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَالِصِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں خالص لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَرِّعِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں پرہیزگاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَطْهَرِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بڑے پاکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَكْرَمِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بہت عزت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْجَبِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بہت شریفوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُكْرَمِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عزت داروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَشْجَعِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بڑے بہادروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَفْضَلِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں بڑی فضیلت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْوَارِ

یا اللہ! درود بھیج اُوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں نور والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعْرُوفِينَ

یا اللہ! درود بھیج اُوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں نیکوکاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّالِكِينَ

یا اللہ! درود بھیج اُوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں سالکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعَاهِدِينَ

یا اللہ! درود بھیج اُوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں عہد کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْهَادِينَ

یا اللہ! درود بھیج اُوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں ہدایت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَهْدِيِّينَ

یا اللہ! درود بھیج اُوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں راہ پانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّبِعِينَ

یا اللہ! درود بھیج اُوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں روشنی پکڑنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسْكِينِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں مرتبہ پانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاقِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں فوقیت پانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاقِحِينَ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے جو سردار ہیں کھولنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ الْأَرْضِ إِذَا

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے ساتھ زمین کے جب

بَدَلْتُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ الصُّدُورِ

بدلی جائے یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے ساتھ سینوں کے

إِذَا حُصِّلَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ

جب کھولے جاویں یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے ساتھ

الْحَسَنَاتِ إِذَا أَظْهَرْتُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

نیکیوں کے جب ظاہر کی جاویں یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے

مَعَ السَّيَّاتِ إِذَا أُبْدِلَتْ أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ساتھ برائیوں کے جب بدل جاویں (نیکیوں سے) یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے

مَعَ السَّيَّاتِ إِذَا أَنْزِلَتْ أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ساتھ برائیوں کے جب چھوڑ دی جاویں یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے

مَعَ الْحَاجَاتِ إِذَا قُضِيَتْ أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ساتھ حاجتوں کے جب کہ قضا کی جاویں یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے

مَعَ الْجَنَّةِ إِذَا أُرِفَتْ أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ساتھ بہشت کے جب قریب کی جاوے یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے

مَعَ النَّفُوسِ إِذَا أُرُوِّجَتْ أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ساتھ نفسوں کے جب ملائے جاویں یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے

إِلَى الْمَدِينِ عَلَى وَحْيِكَ صَلَوَةٌ لِأَحَدٍ لَهَا وَلَا

کے جو امانت دار ہیں اوپر وحی تیرے کے درود ہے نہ اور

مُنْتَهَى أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ

بے انتہا یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے ساتھ عدد کے کہ معلوم ہے

مَعْلُومٌ لَكَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ

تجھ کو اور اوپر اولاد سردار ہمارے محمد ﷺ کے اور برکت

وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ أَضْعَافَ مَا

اور سلام بھیج یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے کئی گنا اس چیز کا کہ

صَلِّيَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْمُرْسَلِينَ مِنَ السَّابِقِينَ

درود پڑھیں اوپر اُس کے سب درود خواں اگلے

وَالْمُؤَخَّرِينَ أَضْعَافًا مِّضَاعَةً أَلْفَ أَلْفٍ

اور پچھلے دُکُنَا دُكُنَا کئی لاکھ اور

فِي أَلْفِ أَلْفٍ وَصَلِّ كَذَلِكَ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ

درود بھیج اسی طرح اوپر تمام نبیوں

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

اور رسولوں کے اور اوپر فرشتوں مقربوں کے

وَعَلَىٰ أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

اور اوپر جو اہل طاعت تیرے ہیں سب یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ شَيْءٍ فِي

محمد ﷺ کے اور اوپر آل محمد ﷺ کے ساتھ گنتی ہر چیز کے جو بیچ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ

دُنیا اور آخرت کے ہے رحمتیں اللہ کی اور فرشتوں اس کے کی اور

وَأَنْبِيَآئِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

نبیوں اس کے کی اور رسولوں اس کے کی اور تمام خلقت اس کے کی اوپر محمد ﷺ

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ

کے جو سردار ہیں رسولوں کے اور پیشوا پر مہیزگاروں کے اور ختم کرنیوالے

النَّبِيِّينَ وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمَحْجَلِينَ وَشَفِيعِ

نبیوں کے اور کھینچنے والے ہیں روشن پیشانی اور ہاتھ پاؤں والوں کے اور

الْمُذْنِبِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ

شفاعت کرنیوالے گنہگاروں کے اور رسول پروردگار جہانوں کے اور اوپر آل اس

أَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَحْفَادِهِ

کی اور یاروں اس کے اور اولاد اس کی اور گھر والوں اس کے اور نواسوں اس کے

اجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَ

سب کے یا الہی درود بھیج اوپر جبرائیل اور میکائیل اور

إِسْرَافِيلَ وَعِزْرَائِيلَ وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَالْمَلَائِكَةِ

اسرافیل اور عزرائیل اور منکر اور نکیر اور فرشتے

الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَالْحِكْرَامِ

مقربوں کے اور اوپر اٹھانے والوں عرش کے اور کراما کاہن کے

الْكَاتِبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

یا الہی درود بھیج اوپر سردار ہمارے محمد ﷺ کے اور اوپر

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صَلَوَاتُكَ

اولاد سردار ہمارے محمد ﷺ کے اور برکت اور سلام بھیج ایسا درود کہ

تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَقَاتِ وَ

خلاصی دے ہم کو ساتھ اس کے تمام خوروں اور آفتوں سے اور پورا کرے

تَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا

تو واسطے ہمارے ساتھ اس کے تمام حاجتوں کے اور پاک کر ہم کو ساتھ اس

بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ

کے تمام برائیوں سے اور بلند کر دے ہم کو ساتھ اس کے نزدیک

أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ

اپنے اعلیٰ درجوں پر اور پہنچا دے ہم کو ساتھ اس کے منزل مقصود پر تمام

جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ

نیکیوں سے بیچ زندگی کے اور بعد مرنے کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد ﷺ کے اور اوپر آل محمد کے اور برکت

وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

بھیج اور سلامتی اور درود بھیج اوپر تمام نبیوں کے اور رسولوں کے

وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

اور اوپر بندے اپنے نیکوں کے اور سلام بھیج سلام بہت

كَثِيرًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الصَّلَاةِ

بہت یا الہی میں مانگتا ہوں تجھ سے بطفیل اس درود کے یہ کہ

أَنْ تُكْرِمَنِي بِرُؤْيَةِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ

عزت دے تو مجھے ساتھ دیدار محمد ﷺ کے جو مہر نبیوں کے ہیں

فِي الْمَنَامِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَإِلْسَانِي

بیچ خواب کے اور یہ کہ بخش دے تو مجھے اور ماں باپ میرے اور استادوں میرے

وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں اور مسلمان مردوں

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

اور مسلمان عورتوں کو جو زندہ ہیں ان سے یا مردہ اور

وَتُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِكَ وَتُوجِبَ لِي

بچا تو مجھ کو عذاب اپنے سے اور واجب کر میرے واسطے

رِضْوَانِكَ وَسَلِّمْ سَلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

رضامندی اپنی اور سلام بھیج سلام بہت بہت

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ۝

ساتھ رحمت اپنی کے اے بڑے رحم کرنے والوں کے

درود مستغاث

یہ مکرم و معظم درود شریف حضور محبوب سرور کائنات ﷺ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ علیہا الصلوٰۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے مترشح ہے اور یہ تمام اوراد و وظائف کا سر تاج اور افضل ترین و درود و وظیفہ ہے۔ اس کے فضائل و فوائد بے حد و بیشمار اور حیطہ تحریر سے باہر ہیں۔ اس کا ورد صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام اولیائے کاملین متقدمین و متاخرین سے چلا آتا ہے۔ ہر دور کے اہل اللہ و مشائخ عظام نے اسے اپنا ورد بنایا ہے اور اس کے فیوض و برکات ظاہری و باطنی سے مستفیض ہوئے۔

مستغاث کا مطلب التجا اور فریاد رسی ہے کیونکہ اس درود پاک میں حضور ﷺ کی صفات جمیلہ کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں حضور اکرم ﷺ پر درود بھیجنے یعنی نزول رحمت کی بار بار فریاد کی گئی ہے اس لئے اسے درود مستغاث کہا جاتا ہے۔ یہ درود بڑی برکات اور

فضیلت کا حامل ہے۔ اس کا ہر لفظ حضور اکرم ﷺ کی صفتوں سے
 بھرا ہوا ہے۔ اس لئے حضور اکرم ﷺ کے چاہنے والوں کے لئے
 یہ نہایت ہی اعلیٰ و ظیفہ ہے۔ یہ درود خاندانِ چشتیہ کے سالکین اور
 خواجگان میں بہت پڑھا جاتا ہے اور اکثر سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں
 نے بھی اس درود پاک کی اپنے مریدوں کو اجازت دی۔ حضرت
 خواجہ نور محمد مہاروی حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی حضرت
 خواجہ شمس الدین سیالوی اور ان کے خلفاء عظام میں یہ درود بڑا
 مستعمل رہا ہے۔ خواجہ خواجگان شیخ شمس الدین سیالوی قدس اللہ
 اسرارہ فرماتے ہیں کہ یہ درود مقدس درود مستغاث شریف واقعی
 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ علیہا الصلوٰۃ والسلام سے ہی
 منسوب ہے۔ جب حضور سرور کائنات ﷺ غزوہ بنی مطلق پر
 تشریف لے گئے تھے اس بار حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ علیہا
 الصلوٰۃ والسلام بھی ہمراہ تھیں۔ جب واپس تشریف لارہے تھے تو
 مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ کیا تو حضرت ام المؤمنین علیہا
 السلام ہودے سے نکل کر جنگل کی طرف قضائے حاجت کے لئے

تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ کے گلے کا ہار (گلوبند) گم ہو گیا جس کو تلاش کرتے کچھ دیر لگ گئی اور قافلہ چل دیا۔ جب آپ واپس تشریف لائیں تو پڑاؤ پر کوئی بھی نہ تھا۔ چنانچہ آپ نے سوچ کر یہی رائے قائم کی کہ یہیں ٹھہری رہوں کیونکہ آگے جا کر جب مجھے ہودج میں نہیں پائیں گے تو پھر یہیں ڈھونڈنے آئیں گے آپ نے رات بھر وہیں قیام فرمایا علی الصبح حضرت صفوان بن معطل جو لشکر کی گری پڑی چیزیں تلاش کرنے کی خدمت پر مامور تھے وہاں پہنچے اور اونٹ کی مہار پکڑ آپ کے آگے بٹھلا دیا۔ آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں تو مہار پکڑ کر آگے ہوئے اور دوپہر تک قافلہ میں جا ملا یا۔

اب عبداللہ ابن ابی نے طومار بندی شروع کر دی اور بعض بھولے بھالے مسلمان مرد عورتیں بھی اس کے متعلق بغیر دیکھے مغویانہ پروپیگنڈے۔ سنی سنائی باتوں سے متاثر اس قسم کی باتیں بنانے لگے اور شبہات کا چرچا کرنے لگے۔ آنحضرت ﷺ نے تو توقف فرمایا کہ جب تک اس حقیقت پر بذریعہ وحی مطلع نہ ہوں گے

کچھ نہ فرمائیں گے۔ مگر جب حضرت ام المومنینؓ کو خبر ہوئی تو وہ رات دن روتی رہیں۔ بیمار کچھ پہلے ہی تھیں شدت غم سے اور زیادہ نڈھال ہو گئیں اور اجازت لے کر مکے چلی گئیں اور اس وقت اس پریشانی کے عالم میں شدت غم، ہجر و فراق محبوب خدا ﷺ میں اس پاکدامنہ، عاشقہ و محبوبہ رسول اللہ ﷺ نے یہ درود مستغاث شریف مرتب فرمایا جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے ہر مشکل کا حل اور ہر درد کا درمان ہے اور اسی کا ورد کرتی رہیں یعنی اس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ذات باری و ذات محبوب باری کے حضور یہ اپنا استغاثہ فریاد کرتی رہیں۔ آخر حق تعالیٰ نے اسے اعلیٰ درجہ استعجاب عطا فرمایا اور سورہ نور میں آپ کے حق میں برأت نازل فرماتے ہوئے دس آیتیں آپ کی پاک دامنی اور شان و عظمت میں نازل فرمائیں۔ اور اس طرح حضور شہنشاہ کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں آپ کا درجہ و مقام اور زیادہ بلند ہو گیا۔

یہ درود شریف جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ علیہا الصلوٰۃ والسلام جیسی بلند شان ہستی مقدس کی زبان حق ترجمان سے مترشح ہے اس کے فضائل و برکات بھلا کیسے کسی کے حیطہ تحریر میں آسکتے ہیں۔ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لہذا اس سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔

یہ درود مکرم و معظم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ علیہا الصلوٰۃ والسلام سے خواص میں سینہ بسینہ ہی آرہا تھا۔ مگر تاجدار فقر و ولایت حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمتہ اللہ علیہ نے جو حضور شہنشاہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر اور حضور سے ہی فیض یافتہ ہیں۔ آپ نے اس کے متعدد نسخہ جات کتابت فرما کر اکثر اہل اللہ کو بخشے اور اس طرح اس نعمت بے بہا کو عام کر دیا اس درود شریف میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ علیہا الصلوٰۃ والسلام کا نام مبارک اور دیگر کچھ اضافہ آپ نے ہی کیا ہے جو سونے پر سہاگے کے مترادف ہی ہے۔

دوسرے تمام درودوں کی طرح یہ بھی بے شمار فیوض و برکات

کا حامل ہے اگر کسی گھر میں یہ درود ہفتہ میں ایک بار پڑھا جائے تو اس گھر میں اتفاق اور آپس میں محبت رہتی ہے اور گھر کے ہر کام میں خیر و برکت قائم رہتی ہے، اگر اولاد نافرمان ہو تو پانی پر سات دن تک درود مستغاث پڑھ کر پلا دیں انشاء اللہ اولاد فرمانبردار ہو جائے گی کاروبار کے مقام بیٹھ کر اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا اضافہ رزق کا باعث بنتا ہے اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا دکھ غم یا آفت میں پھنس ہو تو اسے ۴۱ دن تک بعد نماز فجر مسجد میں بیٹھ کر پڑھے انشاء اللہ غم و فکر سے نجات ملے گی اگر کسی خاص دنیاوی کام کے لئے دعا کرنی ہو اور خواہش ہو کہ وہ ضرور قبول ہو تو نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر یہ درود گیارہ مرتبہ پڑھو اور پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور دعا کرو انشاء اللہ دعا قبول ہوگی۔ اور جب تک دعا قبول نہ ہو یہ عمل جاری رکھو۔ اگر کسی فریق میں لڑائی بھگڑا رہتا ہو تو انہیں درود مستغاث کا دم شدہ پانی پلا دو دونوں فریقوں میں پیار کی فضا قائم ہو جائے گی۔

اس درود پاک کی خیر و برکت میں دو کاموں کا ہونا بہت نمایاں ہے ایک تو یہ ہے کہ جو شخص اسے روزانہ یا جب موقع ملے پڑھتا رہے اسے دنیا میں عزت ملے گی اور دوسرے جو حاجت ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے وہ اللہ کی رحمت سے پوری ہو جاتی ہے۔ روحانیت حاصل کرنے کے لئے بھی یہ درود بہت اکیسر ہے۔ لہذا جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ کے روحانی راستے پر گامزن ہو جائے اور اسرار معرفت ظاہر ہوں تو اسے چاہئے گا ہے بگا ہے اس درود کی دعوت پڑھتا رہے۔ دعوت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں تہجد کے وقت بیدار ہو کر نماز تہجد کے بعد ایک مرتبہ یہ درود پڑھے اگلے روز دوسرے مرتبہ پڑھے اس طرح گیارہ دن تک ایک ایک کا اضافہ کرتا جائے یعنی گیارہویں دن گیارہ مرتبہ پڑھے پھر ایک ایک کم کرنا شروع کر دے بارہویں دن دس مرتبہ تیرہویں دن نو مرتبہ یہاں تک کہ اکیس دن تک پڑھے اور اکیسویں دن ایک بار پڑھ کر ختم کر دے اس طرح روحانی اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جوں جوں دعوتوں کی کثرت ہوگی روحانی

مشاہدات کی دولت سے مالا مال ہوتا چلا جائے گا۔

زکوٰۃ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قمری مہینہ کے شروع میں جمعرات کی رات سے شروع کریں اور مسجد کے شمال مغربی کونے کی طرف منہ کریں رو بہ مدینہ طیبہ مصلیٰ بچھا کر بخضوری قلب پہلے درود شریف اللہم صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم علیہ۔ ۷ بار سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار پڑھ کر درود مستغاث شریف گیارہ بار گیارہ روز تک پڑھیں اور بعد کلمہ اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا پانچ بار پڑھیں زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔

ایام زکوٰۃ میں روزہ رکھیں اور اشیاء جلالی مثل گوشت، پیاز و مچھلی وغیرہ سے پرہیز کریں جماع بھی نہ کریں اور اپنے گرد خوشبو رکھیں۔ کپڑے پاک و صاف و سفید ہوں۔ یہ پرہیز اور خوشبو صرف زکوٰۃ کے وقت ہے۔ بعد میں نہیں اور پڑھنے کی جگہ مقرر ہو۔ زکوٰۃ کے بعد حسب توفیق کھانا تیار کر کے مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي زَيَّنَ النَّبِيْنَ بِحَنِيْبِهِ

تمام تعریفیں ثابت ہیں واسطے اللہ کے جس نے زینت دی نبیوں کو ساتھ

الْمُصْطَفَىٰ وَمَنْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ بِنَبِيِّهِ

حبیب اپنے پیغمبرِ چیدہ کے اور احسان کیا اوپر مومنوں کے ساتھ نبی کریم اپنے

الْمُجْتَبَىٰ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ

برگزیدہ کے درود اور سلام اوپر رسول کریم کے جو نام مبارک ان

خَيْرِ الْوَرَىٰ هُ الْمَسِيرِيْهِ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ

کا محمد ﷺ ہے بہتر خلق کے وہ نبی کہ سیر کرایا گیا ان کو عرشِ مجید سے زمین

إِلَى تَحْتِ الثَّرَىٰ هُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا مَضَىٰ

کے نیچے تک تمام صفات ثابت ہیں واسطے اللہ کے اوپر اس چیز کے جو

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا بَقِيَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

گزری اور تمام صفتیں ثابت ہیں اللہ کی اوپر گنتی اس چیز کے جو باقی ہے درود

عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَسْطَى مَدْحُكَ

اور سلام اوپر رسول اللہ کے جو محمد ﷺ ہیں بہتر خلق کے تعریف کی ہیں نے

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَنْتَ

اے رسول اللہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اوپر نبی کریم امی کے تمہیں یا

خَيْرَ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

نبی برگزیدہ اللہ کے ہو فریاد پہنچائے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَارِثُ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے جو وارث ہیں

الْأَنْبِيَاءِ رَسُولُ صَاحِبِ الْوَحْيِ أَحْمَدُ

انبیاء کے اے رسول جو صاحب وحی ہیں نام آپ کا احمد ہے

شَفِيعُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

جو شفاعت کرنے والے ہیں خدا کی درگاہ میں فریاد! طرف درگاہ خدا تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَارِثُ

درود اور سلام آپ پر اے رسول اللہ کے ایسے رسول جو

سَيِّدُ الْكُونَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَإِمَامُ الْقِبْلَتَيْنِ

سرور ہیں دو جہان کے اور دونوں گروہوں جن وانس کے اور امام ہیں دو

شَفِيعُ الْأُمَمِ فِي الدَّارَيْنِ فَتَاخُ فَاتِحِ اللَّهِ

قبلوں کے شفاعت کرنے والے ہیں امتوں کے دونوں جہان میں کھولنے والے مشکلوں کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

جاری کرنے والے امر اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى

سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے ایسے نبی جو برگزیدہ ہیں رسول

رَسُولُ سِرَاجِ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدٌ وَمُطِيبُ اللَّهِ

چراغ تمام جہانوں کے تعریف کئے گئے پاک کئے گئے اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّيِّدُ الْمُعَلَّى

سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے سرور بلند مرتبہ والے

رَسُولُ نَبِيِّ الْخَافِقِينَ قَائِمٌ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ

رسول نبی اہل مشرق اور مغرب کے بانٹنے والے بہتر خلق اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

قریاد ! طرف درگاہ خدا تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے قریاد !

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے مدد ! اے رسول اللہ کے

الْشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَاءُصُ يَا رَسُولَ

شفاعتیں فرمائیے اے رسول اللہ کے رہائی اے رسول

اللَّهُ أَوْلَىٰ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَفْضَلُنَا رَسُولُ نَبِيِّ

اللہ کے بہتر تمام اللہ کے بندوں سے افضل ہمارے رسول نبی

صَاحِبِ الدَّارَيْنِ خَادِمٌ طَيِّبٌ اللَّهُ

ساتھی دونوں جہان کے پاکیزہ اللہ کے

الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ

اور سلام اُوپر آپ کے اے رسول اللہ کے نبی پاک کیے گئے ایسے

رَسُولُ تَاجِ الْحَرَمَيْنِ أَمْرَانَا تَاجِ طَاهِرِ اللَّهِ

رسول جو تاج ہیں مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے حکم دینے والے نیک کاموں کے

الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

منع کرنے والے بدی سے پاکیزہ اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَسُولُ

اور سلام اُوپر آپ کے اے رسول اللہ کے ہدایت کی ہم کو رسول نے

جَدُّ الطَّيِّبِينَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ دَاعِي مَطْهَرِ اللَّهِ

جو نانا ہیں دو پاکوں حسن اور حسین کے بلانے والے خدا کی طرف

الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

پاکیزہ اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَانَ

سلام اُوپر آپ کے اے رسول اللہ کے فریاد !

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے مدد کیجئے اے رسول اللہ کے

الْشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ

مدد کیجئے اے رسول اللہ کے رہائی ! اے رسول

اللَّهُ نَبِيٌّ مَّخْتَارٌ مَرْضِيٌّ إِمَامٌ رَسُولٌ

اللہ کے نبی پسند کئے گئے برگزیدہ کئے گئے پیشوا رسول اقتدائے

مُقَدَّمِي الْأَيَّمَةِ الْهُدَىٰ بَيْنَ هَادٍ وَمُبِينٍ

کئے اماموں کے جو ہدایت یافتہ ہیں ہدایت دینے والے مظاہر کرنے والے

اللَّهُ الْمُسْتَعَانَ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے فریاد ! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر آپ کے اے رسول اللہ کے راستہ سیدھا

هَذَا رَسُولٌ بِهَدَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى مُهْدِي

دکھایا تم کو رسول نے مطابق ہدایت اللہ تعالیٰ کے راہِ راست پر لانے والے

الْأُمَّةِ مِنَ الضَّلَالَةِ مُهْتَدٍ مُطِيعٍ لِلَّهِ

اُمت کے گمراہی سے ہدایت یافتہ فرماں بردار اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبِيبَنَا

اور سلام اُوپر آپ کے اے رسول اللہ کے محبوب ہمارے لیے

رَسُولٌ مُهْدِي الْأُمَّةِ مُحَمَّدٌ وَرَسُولٌ

رسول جو ہدایت کرنے والے ہیں اُمت کو محمد ﷺ اور رسول برگزیدہ

صَفِيٌّ حُجَّةُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

دلیل اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

اللَّهُهُ الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِهُ الْمُسْتَعَانُ

فریاد! اے رسول اللہ کے مدد کیجئے

يَا رَسُولَ اللَّهِهُ الشَّاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِهُ

اے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے اے رسول اللہ کے

الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِهُ مُحَمَّدٌ أَحْمَدٌ

رہائی! اے رسول اللہ کے کہ نام آپ کا محمد ﷺ ہے احمد ہے

حَامِدٌ مَحْمُودٌ مَحْبُوبٌ مُحِبُّ اللَّهِ وَ

حامد ہے محمود ہے پیارے خدا کے دوست رکھنے والے اور ہم

مُحِبُّنَا رَسُولٌ كَرِيمٌ اللَّهُ مَرْضِيٌّ

سے محبت کرنے والے رسول کریم اللہ کے برگزیدہ ہمارے

حَبِيبِنَا رَسُولٌ كَرِيمٌ مَرْضِيٌّ خَلِيفَةُ اللَّهِ

محبوب رسول صاحب کرم مقبول خلیفہ اللہ کے

الْمُسْتَعَانُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَسُولَنَا

اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے رسول ہمارے

رَسُولٌ عَلَى الدَّوَامِ نَبِيٌّ ظَهَرَ لَيْسَ قَائِمٌ

رسول اور ہمیشگی کے نبی ظہر لیس قیام کرنے والے

حَامِدٌ اللَّهُ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

عبادت میں تعریف کرنے والے اللہ کے فریاد اطرف درگاہ اللہ تعالیٰ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

کے درود اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے

اللَّهُ أَمِيرِنَا رَسُولٌ وَنَبِيٌّ كَرِيمٌ مُحَمَّدٌ

امیر ہمارے رسول اور نبی صاحب کرم محمد ﷺ

رَسُولُ اللَّهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ نَاصِرٌ كَلِيمٌ

رسول اللہ کے نام آپ کا احمد ہے مدد دینے والے کلام

اللَّهُ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

کرنے والے اللہ سے فریاد اطرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَانُ يَا

فریاد! اے رسول اللہ کے مدد کیجئے اے

رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے اے رسول اللہ کے

الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُعِينَنَا رَسُولُ

رہائی! اے رسول اللہ کے مدد کرنے والے ہمارے

وَدُرِّ نَبِيِّ الْيَاسِينِ إِمَامٍ أَمِينٍ اللَّهُ

رسول اور مولیٰ جملدار نبی کریم وہ نام مبارک یاسین ہے پیشوا امانت دار

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُصَدِّقُنَا

اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے تصدیق کرنے والے

رَسُولٌ وَحَبِيبٌ نَبِيٌّ مَرْمِلٌ بَيَانٌ رَسُولٌ

ہمارے پیغمبر اور محبوب نبی کلیم پوش بیان کرنے والے رسول

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

شَاهِدُنَا شَافِعُنَا رَسُولٌ وَنَبِيٌّ مَدِيرٌ صَاحِبٌ

شاہد ہمارے شفاعت کرنے والے ہمارے رسول اور نبی لباس پوش

الْقُرْآنِ نُورِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

صاحب قرآن کے نور اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُوپر آپ کے اے

رَسُولِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

رسول اللہ کے فریاد! اے رسول اللہ کے

الْمُسْتَعَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتِ يَا

مرد کیجئے لئے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے لئے

رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَّاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

رسول اللہ کے رہائی ! لئے رسول اللہ کے یاد

مَذِكْرُنَا رَسُولُ مَعْطَرُ الرُّوحِ

دلائے والے ہمارے رسول خوشبودار روح والے پاک

مُظَهَّرُ الْجِسْمِ يَا رَجْوَادُ اللَّهِ الشَّفَاعَاتِ

جسم والے پیکر کرنے والے سخی اللہ کے فریاد !

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ

يَا رَسُولَ اللَّهِ سُلْطَانَ الْأَنْبِيَاءِ وَبِرْهَانَ

کے لئے رسول اللہ کے بادشاہ نبیوں کے اور دلیل اہل

الْأَصْفِيَاءِ مُفَخَّرْنَا رَسُولُ صَاحِبِ الْفُرْقَانِ

صفا کے جن پر ہم کو فخر ہے رسول قرآن والے بلند مرتبہ

عَلَىٰ مَكِّيٍّ شُكْرُ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ

فریاد !

والے مکہ والے شکر گزار اللہ کے

إِلَىٰ حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُپر

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَامُ الْأَيْمَانِ

آپ کے لئے اللہ کے رسول امام پرہیزگاروں کے مدد کرنے

نَاصِرُ نَا رَسُولِ صَاحِبِ الْكَوْثَرِ

والے ہمارے رسول صاحب حوض کوثر کے

مَرَّتْ مَدِينِي مَنِيرُ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ إِلَىٰ

مرئی مدینہ والے نورانی بندے اللہ کے فریاد ! طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے فریاد ! اے رسول اللہ کے

الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ يَا

مدد کیجئے اے رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے اے

رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَّاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

رسول اللہ کے رہائی اے رسول اللہ کے

سِرَاجُ الْأَوْلِيَاءِ ضِيَاءُ نَارِ رَسُولٍ صَاحِبِ

چراغ ولیوں کے روشنی ہماری رسول صاحب

الْمِيزَانِ أَبْطَحِي قَرِيبُ اللَّهِ الْمُسْتَعَانُ

میزان کے متھ والے مقرب اللہ کے فریاد !

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرْهَانُ الْأَصْفِيَاءِ

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے برہان اہل صفا کے

رَسُولٌ صَاحِبُ الْبُرَاقِ سَيِّدُ الْقَوْمِ

رسول براق والے سردار قوم کے

عَرَبِيٌّ تَيْمِمٌ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

عرب والے تميم اللہ کے فریاد ! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے لئے

رَسُولَ اللَّهِ شَفِيعَنَا رَسُولُ مُحَمَّدٍ

رسول اللہ کے شفیع ہمارے رسول نیک جزا دینے والے

مَهْدِيٌّ قُرَيْشِيٌّ شَهِيدُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

ہدایت یافتہ قریشی شاہد اللہ کے فریاد !

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُولَ

آپ کے لئے رسول اللہ کے فریاد ! لئے رسول اللہ

اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ

کے مدد کیجئے لئے رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَّاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے رہائی اے رسول اللہ کے

إِمَامُ الْمُؤْمِنِينَ وَزِينَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

پیشوا مومنوں کے اور زینت نبیوں اور پیغمبروں کے اور

وَوَسِيْلَتُنَا رَسُولُ خَادِمِ الْفُقَرَاءِ حِجَازِيٍّ

وسیلہ ہمارے رسول خدمت کرنے والے فقیروں کے حجاز والے

نَذِيرُ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتِ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

اللہ کے قہر سے ڈرانے والے فریاد! طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

تعالیٰ کے درود اور سلام اُوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

اللَّهُ خَتْمُ الْأَنْبِيَاءِ أَحْمَدُ وَخَاتَمُ

آخر آنے والے نبیوں کے نام مبارک آپ کا احمد ہے اور آخر سب

النَّبِيِّينَ رَسُولٌ مَّا حَى الْكُفْرَ وَالْبِدْعَةَ

انبیاء کے رسول مٹانے والے کفر کے اور بدعت کے

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُسْتَقَاتُ إِلَى

محمد ﷺ بیٹے عبد اللہ کے فریاد ! طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَ رَسُولُنَا مُرْسَلٌ

اے رسول اللہ کے سچ فرمایا رسول ہمارے نے پیغمبر

مُتَوَيْبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَقَاتُ

میان رو رسول رحیم اللہ کے فریاد !

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَقَاتُ يَا رَسُولَ

آپ کے اے رسول اللہ کے فریاد ! اے رسول اللہ

اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ

کے مدد کیجئے اے رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَّاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے رہائی ! اے رسول اللہ کے

سَيِّدُنَا رَسُولٌ مُسْتَعِيثٌ مُقْتَصِدٌ حَلِيمٌ

سرور ہمارے پیغمبر فریاد چاہنے والے میانہ روی کرنے والے

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

بروبار بندے اللہ کے فریاد طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

أَعِنَّا يَا رَسُولَ الثَّقَلَيْنِ أَنْتَ حَقٌّ مُبِينٌ

فریاد کو پہنچنے اے رسول انسانوں اور جنوں کے آپ برحق ہیں ظاہر کرنے

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

والے اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

سہ بار ہر کلمہ خواندہ شود الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُولَ

(ہر کلمہ تین بار پڑھا جائے) فریاد! اے رسول

اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ

اللہ کے مدد کیجئے اے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَفْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاعْظُنَا

اے رسول اللہ کے سفارش فرمائیے اے رسول اللہ کے نصیحت کرنے

رَسُولٌ وَرَسُولُهُ الْمُجْتَبَى صَاحِبُ الرِّسَالَةِ

والے ہم کو رسول اور ایسے رسول اللہ کے جو برگزیدہ ہیں صاحب رسالت

أَوَّلُ قَدِيمٍ حَبِيبُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

ہیں پہلے ہیں شروع سے (پیغمبر) ہیں محبوب ہیں اللہ کے فریاد اٹھانے

حَضْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

ورگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے اے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

[رسول اللہ کے فریاد! اے رسول اللہ کے مدد

الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ

کیجئے اے رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے اے رسول

اللَّهُ الْخَلَّاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْرَمَنَا

اللہ کے رہائی ! اے رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم پر کرم کرنے والے

رَسُولُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ وَكَاشِفِ الْغَمِّ

رسول شریعت والے اور غموں کو دور کرنے والے آخر (پہنچنے)

اخِرُ عَزِيزِ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

عزیز اللہ کے فریاد ! طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

أَهْلُ التَّقْوَى وَبُرْهَانَ الْأَتْقِيَاءِ رَشِيدُنَا

تقویٰ والے اور برہان پرہیزگاروں کے ہم کو نیک ہدایت کرنے

رَسُولُ صَاحِبِ الطَّرِيقَةِ شِفَاءُ فَصِيحٍ

والے رسول صاحب شریعت شفا دینے والے (ظاہر و باطن) امراض

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

کے (خوشگوار اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے

أَمَّا بِكَ أَنْتَ نَبِيُّنَا رَسُولُ صَاحِبِ الْحَقِيقَةِ

ایمان لائے ہم آپ پر آپ ہمارے نبی ہیں رسول ہیں صاحب معرفت

مُضَرِّيُّ بَشِيرٌ نَذِيرٌ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ

ہیں مسوب طرف مضر کے بشارت دینے والے ڈرالے والے اللہ سے فریاد!

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے فریاد! اے رسول اللہ کے

الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ يَا

مدد کیجئے اے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے اے

رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَّاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

رسول اللہ کے رہائی ! اے رسول اللہ کے

إِمَامِ الْأُمَمِ مُقَدِّمًا رَسُولُ صَاحِبِ

امام امتوں کے ہم کو جنت میں پہلے بھیجنے والے رسول صاحب

الْمَعْرِفَةِ بِرُحْمَةِ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتِ

معرفت کے دلیل رحمت اللہ کے فریاد !

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ

يَا رَسُولَ اللَّهِ كَبِيرِنَا رَسُولُ صَاحِبِ

کے اے رسول اللہ کے بزرگ ہمارے رسول صاحب احسان

الْإِيْمَةِ ظَاهِرُ كَرِيمِ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتِ إِلَى

کے غالب کریم اللہ کے فریاد ! طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے اے

يَا رَسُولَ اللَّهِ سَنَدُ الْعَاصِمِينَ رَسُولُ صَاحِبِ

رسول اللہ کے تنکیہ گاہ گنہ گاروں کے رسول صاحب

الْجَنَّةِ فَاغْرُجْهُمْ سُلْطَانُ تِهَامِيٍّ مُؤْمِنٍ

جنت کے خالی کرنے والے دوزخ کے بادشاہ تہامی یعنی مکہ معظمہ

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

والے ایمان لانے والے اللہ پر فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ

فریاد! اے رسول اللہ کے مدد کیجئے اے رسول

اللَّهُ الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَّاصُ يَا

اللہ کے شفاعت کیجئے اے رسول اللہ کے رہائی! اے

رَسُولَ اللَّهِ فَيَقِيهِنَا رَسُولُ صَاحِبِ الصِّرَاطِ

رسول اللہ کے دانا ہمارے رسول صاحب صراط کے

مُبَلِّغُ عَاقِبِ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ

پہنچانے والے پیچھے آنے والے نبی اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول

اللَّهُ أَنْتَ وَلِيِّنَا رَسُولُ صَاحِبِ الشَّفَاعَاتِ

اللہ کے آپ ہمارے ولی ہیں رسول ہیں صاحب ہیں شفاعتوں کے

بِإِذْنِ بَاطِنٍ خَلِيلِ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى

سخی ہیں صاحب باطن ہیں پیارے ہیں اللہ کے فریاد! طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے لئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ شَفِيعُ عَوَامِنَا رَسُولُ صَاحِبِ

رسول اللہ کے شفاعت کرنے والے ہم سب کے پیغمبر

التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ مُحَلِّلِ بِإِذْنِ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ

تاج اور معراج کے حلال کرنے والے اللہ کی اجازت سے فریاد!

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

آپ کے لئے رسول اللہ کے فریاد ! اے رسول اللہ کے

الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ

مدد کیجئے اے رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے اے رسول

اللَّهُ الْخَلَّاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَ النَّارِ

اللہ کے رہائی ! اے رسول اللہ کے اور دوزخ سے

مُخْلِصُنَا رَسُولُ صَاحِبِ الْمِحْرَابِ حَاشِرُ

چھڑانے والے ہم کو رسول صاحب محراب کے جمع کرنے والے

نَبِيِّ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

نبی اللہ کے فریاد ! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے

أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

افضل سب نبیوں سے اور صدیقوں سے اور شہیدوں کے

وَالصَّالِحِينَ مَحْبُوبِنَا رَسُولُ صَاحِبِ الْمُنْبَرِ

اور نیکوکاروں سے پیارے ہمارے رسول صاحب منبر کے

خَطِيبُ رَحْمَةِ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ

خطبہ دینے والے رحمت اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ

اللَّهُ مُبَشِّرِنَا رَسُولُ صَاحِبِ الْبَيْتِ عَامِرُ

کے بشارت دینے والے ہم کو رسول صاحب بیت اللہ کے آباد کرنے

كَعْبَةِ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

والے کعبہ اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَانُ يَا

فریاد ! اے رسول اللہ کے مدد کیجئے اے

رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے اے رسول اللہ کے

الْخَلَّاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكَبِيرُ يَا رَسُولَ صَاحِبِ

ربانی ! اے رسول اللہ کے بزرگ ہمارے رسول صاحب

الْبِعْرَاجِ عَالِمِ غَيْبِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

معراج کے عالم غیبی اللہ کے فریاد ! طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول

يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِيُّ آخِرِ الزَّمَانِ رَسُولَ صَاحِبِ

اللہ کے نبی آخر زمانہ کے رسول صاحب

الْإِجْتِهَادِ مُنْتَقِمٌ مُكْرَمٌ اللَّهُ

اجتہاد کے بدلہ لینے والے بزرگ بنائے ہوئے اللہ کے

الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي الدِّينِ

اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے اور دین میں

صَادِقًا رَسُولٌ صَاحِبُ الْقِيَمَةِ نَاطِقٌ

راست گو رسول رفیق روز قیامت کے حق فرمانے والے

بِالْحَقِّ شَفِيعُ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ

شفاعت کرنے والے اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے لئے رسول

اللَّهُ الْمُسْتَفَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَانُ

اللہ کے فریاد! لئے رسول اللہ کے مدد کیجئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

لئے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے لئے رسول اللہ کے

الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُشَفَعُ الْأُمَّةِ مُعِينُنَا

ربانی ! اے رسول اللہ کے شفاعت قبول کئے گئے واسطے اُمت

بِالشَّفَاعَةِ رَسُولُ صَاحِبِ النَّبُوَّةِ مُحَرَّمٌ

کے مدد کرنے والے ہمارے ساتھ شفاعت کے رسول صاحب نبوت کے

نَبِيِّ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

حرمت کئے گئے نبی اللہ کے فریاد ! طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

نَبِيِّ الرَّحْمَةِ سَابِقُنَا رَسُولُ صَاحِبِ الدَّارَيْنِ

نبی رحمت کے نیک کام کی طرف ہم سے سبقت کرنے والے رسول صاحب

حَرِيصٌ عَلَى الطَّاعَةِ رَعُوفٌ لِلَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

دونوں جہان کے حرص کرنے والے طاعت پر مہربان بندے اللہ کے فریاد

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَاهِ بَيْنَنَا

اے رسول اللہ کے سردار جن اور انسان کے منع کرنے والے

رَسُولُ صَاحِبِ الْأُمَّةِ وَالنِّعْمَةِ هَاشِمِيُّ

برے کاموں سے نبی ہمارے رسول صاحب امت کے اور صاحب نعمت کے

كَرَامَةُ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

اولادِ ناسم کے بزرگ اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے خدمت کرنے والے

خَادِمُ الْحَرَمَيْنِ وَجَدُّ الْحَسَنَيْنِ وَصَاحِبِ

حرمین کے اور نانا حسن اور حسین کے اور صاحب

قَابِ قَوْسَيْنِ رَسُولُ حَبِيبٍ قَرِيبِ اللَّهِ

قاب قوسین کے رسول محبوب مقرب اللہ کے

الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَ

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُقَرَّبًا رَسُولًا

آپ کے لئے رسول اللہ کے نزدیک کرنے والے ہم کو رسول

إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ

طرف رحمت اللہ تعالیٰ کے لاکھوں درود اور

وَسَّلَامٍ وَرَحْمَةٍ وَبَرَكَاتٍ عَلَى أَكْرَمِ

سلاّم اور رحمت اور برکت اُوپر بزرگ ترین

الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَصْفِيَاءِ خَاتَمِ رُسُلِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ

نبیوں کے اور اہل صفاء کے آخر اللہ کے پیغمبروں کے محمد ﷺ

رَسُولِ اللَّهِ الْمُصْطَفَى وَحَبِيبِهِ الْمُرْتَضَى

رسول اللہ کے جو برگزیدہ ہیں اور خدا کے برگزیدہ محبوب پر

وَصَفِيِّهِ الْمُجْتَبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اور خدا کے صاف باطن مقبول بندے پر رحمت نازل فرمائے اللہ اور آپ

تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

کے اور آپ کی آل کے اور سلام بھیجے بہت بہت اپنی رحمت سے لے سب سے

الرَّحِيمِينَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ أَبَا بَكْرٍ الشَّقِيَّ

زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ رحمت بھیج ابو بکر صاحب تقویٰ پر اور

وَعُمَرَ النَّقِيَّ وَعُثْمَانَ الزَّكِيَّ وَعَلِيَّ بْنَ الْوَلِيِّ

عمر پر کہ پاک ہیں اور عثمان پر کہ پاک ہیں اور علی پر جو وفا کرنے

أَسَدَ اللَّهِ الْمُرْتَضَى وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَ

والے شیر خدا کے برگزیدہ اور حضرت فاطمہ الزہراء پر اور

خَدِيجَةَ الْكُبْرَى وَأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ

حضرت خدیجہ کبریٰ پر اور مسلمانوں کی ماں

عَائِشَةَ الصِّدِّيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالْحَسَنَ

حضرت عائشہ صدیقہ پر راضی ہوا اللہ ان سے اور امام حسن

الرِّضَا وَالْحُسَيْنَ الشَّهِيدَ الْمُجْتَبَى وَ

صاحب رضاء پر اور امام حسین شہید برگزیدہ پر اور

شُهَدَاءَ الْكُرْبَلَاءِ وَالسَّعْدَ وَالسَّعِيدَ وَ

تمام شہداء کربلا پر اور سعد اور سعید اور

طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

طلحہ اور زبیر اور عبدالرحمن بن عوف اور

وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَالْعَشْرَةَ الْمُبَشَّرَةَ

ابو عبیدہ بن جراح پر اور دس اصحاب پر کہ

وَسَائِرَ الصَّحَابَةِ وَالْخُلَفَاءَ الرَّشِيدِينَ وَالتَّابِعِينَ

بقیہ صحابہ کے دیکھنے والے مومنین اور تمام اصحاب پر اور خلفاء راشدین

مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِينَ

پر اور صحابہ کے دیکھنے والے مومنین پر آسمان والوں میں سے اور زمین والوں

رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ هُ أَسْأَلُكَ

میں سے رضائے الہی ان سب کے ساتھ ہو میں آپ سے سوال

أَنْ تَغْفِرَ لِي وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

کرتا ہوں کہ بخش دیجئے مجھ کو اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

مخوشیوں کو اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ بخش

وَلِوَالِدَيَّْ وَلِمَنْ تَوَالَدَا وَارْحَهُمَا كَمَا

اے مجھ کو اور میرے والدین کو اور میری اولاد کو اور رحم کر ان دونوں پر جیسا

رَبِّنِي صَغِيرًا وَاعْفِرْ لِكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ

پرورش کی انہوں نے میری بچپن میں اور بخش دے تمام ایمان والوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

کو اور ایمان والیوں کو اور اسلام والوں کو اور اسلام والیوں کو

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ

جو زندہ ہیں ان میں سے اور جو فوت ہو چکے ہیں بیشک آپ

الدَّعَوَاتِ وَمُنْزِلُ الْبَرَكَاتِ وَرَافِعُ

دعائیں قبول کرنے والے ہیں اور نازل کرنے والے ہیں برکتوں کے

الدَّرَجَاتِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ

اور بلند کرنے والے ہیں درجوں کے اور رحمت بھیجے اللہ اوپر بہترین خلق

وَأَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ

اپنی کے کہ نام آپ کا محمد ہے اور ان کی اولاد اور اصحاب سب پر اپنی رحمت

يَا رَحِمَ الرَّحِيمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

سے لے سب سے زیادہ رحم کرنے والے لے اللہ رحمت نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ الذَّكِيِّ

ہمارے سردار محمد ﷺ جو نبی امی ہیں پاکیزہ اور پاک باطن ہیں

صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَتُفَكُّ بِهَا

ایسی رحمت کہ جس کی برکت سے ہمارے باطن کی گرہیں کھل جائیں اور

الْكُفُوبُ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضًى وَ

بے چینیاں دور ہو جائیں ایسی رحمت جو آپ کے لیے رضامندی

لِحَقِّهِ آدَاءً وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَ

اور ان کے حق کی ادائیگی کا سبب ہو اور آپ کی آل اور آپ کی بیویوں

أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اور آپ کے گھر والوں اور آپ کے صحابہ پر اور برکت اور سلام بھیج

درود کبریت احمر

درود کبریت احمر میں حضور ﷺ کی بے پناہ تعریف کی گئی ہے

اور یہ سلسلہ عالیہ قادر یہ میں بہت معروف ہے اکثر سلسلہ قادر یہ کے بزرگ حضرات اسے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ درود حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کے ذات گرامی کی طرف منسوب ہے اور انہوں نے تاحیات اسے اپنے معمول میں رکھا۔ اس درود کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے سچے دل اور تڑپ سے پڑھنے والا نبی اکرم ﷺ کے عشق و محبت کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور حضور ﷺ کے عاشق صادق کا دل یہ درود پڑھنے سے بہت تسکین پاتا ہے اور ایسا شخص جس کا دل حب رسول ﷺ سے خالی ہو اگر وہ اسے پڑھے تو اس کے دل میں حب رسول ﷺ کی تڑپ بیدار ہو جائے گی اور جوں جوں پڑھنے میں کثرت کرے گا اس کے دل میں عشق رسول ﷺ کا سمندر موجزن ہوتا چلا جائے گا۔

بعض اہل روحانیت کا کہنا ہے کہ یہ درود معارف محمدیہ ﷺ کے انوارات کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اور ان طالبان طریقت کو نور محمدی ﷺ کے اسرار کا خصوصی حصہ ملتا ہے جو اسے کثرت سے پڑھتے رہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص نور محمدی ﷺ کے

انوارات کو دیکھنا چاہے یا اس میں غوطہ زنی کرنا چاہے تو اسے یہ درود
 دن رات پڑھنا چاہئے سلسلہ قادر یہ کے ایسے مریدین و طالبان جن
 کا روحانی حال قبض ہو گیا ہو یعنی انہیں مشاہدہ ہونا بند ہو گیا ہو اگر وہ
 اس درود پاک کو بعد نماز عشاء امرتبہ روزانہ چالیس روز تک خلوت
 میں پڑھیں تو انشاء اللہ ان کا حال کھل جائے گا اور مشاہدات کا سلسلہ
 دوبارہ شروع ہو جائے گا۔

ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کا ہمیشہ ورد
 رکھے گا وہ حساب و کتاب کے بغیر ہی جنت میں داخل ہو گا اور ایسا
 شخص جس نے زندگی میں اسے ایک بار بھی پڑھا ہو گا تو اسے قیامت
 میں حضور ﷺ کی شفاعت ملے گی۔ اور جو شخص روضہ رسول
 کریم ﷺ کے قریب ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اسے سات یوم تک
 روزانہ امرتبہ پڑھے انشاء اللہ حضور ﷺ کی زیارت سے مشرف
 ہو گا اور جو شخص شب معراج میں اسے بعد نماز عشاء سے پڑھنا
 شروع کرے اور ساری رات تہجد کی نماز تک پڑھتا رہے اس کے
 بعد نماز تہجد پڑھ کر سو جائے تو اسے واقعہ معراج النبی کا مشاہدہ ہو گا

بشرطیکہ پیچھے مرشد کامل کی توجہ ہو۔

گلزار سرورئی میں ہے کہ یہ درود شریف حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث صدانی سیدنا و مولانا شیخ سید ابو محمد عبدالقادر غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص الخاص محبوب ترین ورد ہے جسے حضور نے عشق محبوب خدا ﷺ کے نہایت ارفع و اعلیٰ مقام پر جذبہ عشق میں اپنے قلم معجز رقم سے مرتب فرمایا اور اس کا بہت زیادہ ورد فرمایا یہاں تک کہ آپ قرب و وصال حبیب کبریا ﷺ کے مقام بلند و بالا و درجہ اعلیٰ سے سرفراز فرمائے گئے اور پھر اسی مقام پر اس کے فضائل و برکات کا اظہار فرماتے ہوئے اس اکسیر صفت مکرم و معظم درود شریف کا نام کبریت احمر رکھا ہے کبریت احمر اکسیر کو کہتے ہیں اور اولیائے کاملین رحمۃ اللہ علیہم کے ارشادات کے مطابق اس درود شریف کا نام کبریت احمر اسی وجہ سے ہے کیونکہ جس طرح کبریت احمر (اکسیر) دھاتوں کو سونا بنا دیتی ہے عین اسی طرح یہ درود شریف بھی اپنے عامل کے ظاہر کو نورانی اور باطن کو روشن کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے دل میں حب الہی و عشق

مصطفائی ﷺ کے نورانی شعلے پیدا کر دیتا ہے۔ عامل طالب حق کا دل اس کے فیض سے مہبط انوار و اسرار اور تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے اس کے حجابات دور ہو جاتے ہیں اور حقائق و معارف و اسرار الہی ظاہر اور واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں طالب حق کا وجود پاکیزہ ہو کر عالم ناسوت میں پاکیزہ ماحول شریعت و طریقت کا پیرو ہوتا ہے اور طائر روح ملکوت و لاہوت کی سیر کرتا ہے۔ سینہ نور معرفت سے منور اور دل ذکر الہی سے معمور ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ دینی و دنیوی ظاہری و باطنی انعامات سے مالا مال ہونے کے لئے ہر کام میں کامیابی ہر میدان میں فتح یابی حاصل کرنے کے لئے اور ہر مراد کے حصول کے لئے یہ مفید و مجرب معمول اولیاء اللہ ہے۔ ہر چہار سلاسل سے اکثر اہل اللہ طالبان حق اور مشائخ عظام نے اسے اپنا درود و وظیفہ بنایا اور اس کے فیوض و برکات ظاہری و باطنی سے مستفیض و مستفید ہوئے۔ انہیں رب تعالیٰ نے روحانیت کی نعمت عظمیٰ سے نوازا اور دنیوی نعمتوں اور سعادتوں سے بھی بہرہ وافر عطا فرمایا۔ یہ درود شریف خوشنودی و رضا مندی خدا اور دیدار و وصال

مصطفیٰ ﷺ کے لئے بہترین وسیلہ اور آسان ترین ذریعہ ہے شیخ کامل کی اجازت شوق و محبت، صدق دل اور خلوص نیت سے پڑھا جائے تو حضور سرور عالم نور مجسم ﷺ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔

درود کبریت احمر کی زکوٰۃ کا طریق یہ ہے کہ مسواک اور وضو کے بعد غسل کرے اور سر پر عمامہ بقدر ڈھائی گز یا ایک گز باندھ کر اور ایک چادر اپنے تمام جسم پر اوڑھ کر یا دو چادریں ہوں تو ایک اوڑھ لے اور ایک کا تہ بند باندھے۔ اور جاء نماز (مصطفیٰ) ڈیڑھ گز لمبا ہو۔ اور یہ سب کپڑے غیر مستعمل ہوں اور الگ مکان میں نصف شعبان کے بعد کسی روز دن کے وقت شروع کرنے سے پہلے دو نوافل تحیۃ الوضو اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص تین مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورۃ اخلاص سات مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب رسول خدا ﷺ اور تمام صحابہ کرام، آل و اہل بیت اطہار اور غوث اعظم اور اپنے مشائخ کے ارواح کو بخشے۔ اس کے بعد بحضور نبوی ﷺ یا بحضور مجلس نبوی ﷺ بہ نیت محبت الہی و عشق مصطفائی ﷺ درود کبریت احمر روزانہ گیارہ گیارہ مرتبہ اکتالیس یوم تک پڑھے۔

جس کی ابتداء نصف شعبان کے بعد کسی تاریخ سے کر لے مگر آخر
رمضان مع روزہ ختم کرے اور پڑھنے کے دوران تین محل سجدہ ہیں
(مقام) ان پر سجدہ کرے۔

محل اول بعد از کلمہ ”صلوة تملأ الارض والسماء“ سر سجدہ
کر کے میں اس سے آگے کی یہ دعا پڑھے صلوة تستجیب بہا
دعاء نا وتزکی بہا نفوسنا وتھی بہا قلوبنا۔

محل دوم۔ تحل بہا العقد وتفرج بہا الکرہ پر سجدہ کرے۔

محل سوم۔ ویجری بہا لطفک فی امری وامور المسلمین
پر سجدہ کرے۔

اس ترکیب سے ہر روز گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد ہر روز دعاء
مانگے۔ اے خدا اس درود شریف کی برکت سے حضور رسول
اکرم ﷺ کی پیروی پر قائم رکھ اور حضور ﷺ کی محبت کاملہ عطا
فرما اور مشاہدات ذات اپنی سے مشرف فرما۔ اور بعد فراغت عمامہ،
جاء نماز اور چادر اسی حجرے یا کسی مکان میں بحفاظت رکھے تاکہ
دوسرے دن مکہ اکتالیس یوم تک کام دے۔ ایام زکوٰۃ میں اشیاء

جلالی مثل مچھلی، گوشت و پیاز سے پرہیز کرے۔ زکوٰۃ کے اختتام پر کسی قسم کی شیرینی ختم پڑھ کر غرباء و مساکین کو تقسیم کرے۔
 زکوٰۃ دوم مع شرائط مذکورہ آئندہ سال کے نصف شعبان کے بعد بطریق مذکورہ ادا کرے مگر اس میں اکیس مرتبہ روزانہ تا اکتالیس یوم پڑھے۔

زکوٰۃ سوم مع شرائط مذکورہ اس سے آئندہ سال بطریق مذکورہ اکتالیس یوم میں پوری کرے۔ اس مرتبہ ہر روز اکتالیس مرتبہ پڑھے۔ (گلزار سروری از خواجہ محمد رفیق اللہ ص ۲۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع۔ جو نہایت مہربان۔ رحم والا

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَاوَانِي

اے اللہ نازل کیجئے اپنی رحمتوں میں سے بہترین رحمت باعتبار شمار کے اور اپنی

برکاتیک سرمداً و ازکی تَحِيَّاتِكَ فَضْلاً وَ

سب سے زیادہ تبرکاتوں کو باعتبار دوام کے اور اپنے سلاموں میں کے پاکیزہ تر کو باعتبار

مَدَدًا عَلَىٰ أَشْرَفِ الْحَقَائِقِ الْإِنْسَانِيَّةِ

فضل اور مدد کے اُوپر بزرگ ترین حقیقتوں انسانیت کے

وَمَعْدِنِ الدَّقَائِقِ الْإِيمَانِيَّةِ وَطُورِ التَّجَلِّيَّاتِ

اور کان ایمان والی باریکیوں کے اور اُوپر طور (نام پہناڑ کا)

الْإِنْسَانِيَّةِ وَمَهَبِطِ الْأَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ

انسان تجلیات کے اور جہائے نزول خداوندی بھیدوں کے اور

وَوَاسِطَةِ عَقْدِ النَّبِيِّينَ وَمُقَدَّمَةِ جَيْشِ

بیوند وینے والے گرہ پیغمبروں کے اور ہراول لشکر

الْمُرْسَلِينَ وَأَفْضَلِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ حَامِلِ

پیغمبروں کے اور اُوپر بہترین جملہ مخلوق کے اٹھانے والے

لِوَاءِ الْعِزِّ الْأَعْلَىٰ وَمَلِكِ أَرْمَةِ الشَّرَفِ الْأَسْنَىٰ

جھنڈے بزرگی بڑی کے اور مالک مہاروں بزرگی روشن تر کے

شَاهِدِ الْأَسْرَارِ الْأَمْزَلِ وَمُشَاهِدِ الْأَنْوَارِ

واقف بھیدوں ازل کے اور دیکھنے والے انوار کے جو

السَّابِقِ الْأَوَّلِ وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقَدَمِ وَ

سابق اور پہلے ہیں اور بیان کرنے والے زبان ہمیشگی کے اور

مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكْمِ وَمَظْهَرِ

چشمہ علم اور بردباری اور حکمتوں کے اور جائے ظہور بھید

سِرِّ الْجُودِ الْجَزْبِيِّ وَالْكَلْبِيِّ وَاللُّغْوِيِّ عَيْنِ

بخشش جزئی اور کلی کے اور پتلی آنکھ ہستی

الْوَجُودِ الْعُلُويِّ وَالسِّفَلِيِّ وَرُوحِ جَسَدِ الْكَوْنِيِّ

علوی اور سفلی کے اور جان جسم دونوں جہان

وَعَيْنِ حَيَاتِ الدَّارَيْنِ الْمُتَخَلِّقِ بِأَعْلَى

کے اور اصل زندگی دنیا اور آخرت کے

رُتْبَةِ الْعُبُودِيَّةِ الْمُتَحَقِّقِ بِأَسْرَارِ الرُّبُوبِيَّةِ

برترین رتبہ بندگی کے ثابت آراستہ ساتھ بھیدوں ربوبیت کے

مَمَّا حِبِّ الْمَقَامَاتِ الْإِصْطِفَائِيَّةِ وَالْكَرَامَاتِ

صاحب مقامات برگزیدگی کے اور کرامات

الرِّضَايَةِ سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَجَامِعِ

پسندیدگی کے سردار بزرگوں کے اور جامع

الْأَوْصَافِ الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ

اوصاف حمیدہ کے جو صاحب عظمت دوست ہیں اور محبوب ہیں بڑے

الْكَرِيمِ الْمَخْصُوصِ بِأَعْلَى الْمَرَاتِبِ

کریم خاص کئے گئے ساتھ بلند مرتبوں کے اور مقاموں کے

وَالْمَقَامَاتِ وَالْمُؤَيَّدِ بِأَوْضِحِ الْبَرَاهِينِ

اور مدد کئے گئے ساتھ روشن ترین دلیلوں

وَالدَّلَالَاتِ الْمَنصُورِ بِالرُّعْبِ وَالْمُعْجَزَاتِ

اور رہنمائیوں کے مدد کئے گئے ساتھ رعب کے اور معجزات کے

وَالجَوْهَرِ الشَّرِيفِ الْأَبَدِيِّ وَالنُّورِ الْقَدِيمِ

اور جوہر بزرگ دائمی اور نور قدیم

المُحَمَّدِيِّ السَّرْمَدِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمدی ﷺ سرمدی کے سردار ہمارے محمد ﷺ کے

إِلْمَحْمُودِي فِي الْإِيْجَادِ وَالْوُجُودِ الْفَاتِحِ لِكُلِّ

پسندیدہ بیچ پیدائش کے اور ہستی کے ابتدا کرنے والے واسطے ہر ایک

شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَحَضْرَةِ الْمَشَاهِدَةِ

دیکھنے والے اور دیکھے گئے کے اور درگاہ مکانوں روشنی کے

وَالشُّهُودِ نُورٍ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَاهُ وَسِرِّ كُلِّ

اور ظاہر ہونے کے نور ہر چیز کے اور راہنما اس کے اور بھید ہر

سِرٍّ وَسَنَاةِ الَّذِي شَقَّقَتْ مِنْهُ الْأَسْرَاسُ

بھید کے اور روشنی اس کے وہ ذات کہ کھولے گئے اس سے بھید اور

وَأَنْفَلَقَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ السِّرِّ الْبَاطِنِ وَالنُّورِ

روشن ہونے اس سے انوار باطن کے بھید کے اور نور ظاہر

الظَّاهِرِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ

کے سرور کامل ابتداء کرنے والے تمام کرنے والے اول

الْأَوَّلِ الْآخِرِ الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ الْعَاقِبِ الْعَاشِرِ

آخر پوشیدہ ظاہر پیچھے آنے والے اٹھانے والے

النَّاهِي الْأَمِيرَ النَّاصِحِ النَّاصِرِ الصَّابِرِ الشَّاكِرِ

منع کرنے والے حکم کرنے والے نصیحت کرنے والے مدد دینے والے صبر کرنے

الْقَانِتِ الذَّاكِرِ الْمَاجِحِ الْمَاجِدِ الْعَزِيزِ الْحَامِدِ

والے شکر کرنے والے دُعا مانگنے والے ذکر کرنے والے مٹانے والے غالب بزرگ

الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ الْمُتَوَكِّلِ الزَّاهِدِ الْقَائِمِ

حمد کرنے والے یقین کرنے والے عبادت کرنے والے توکل کرنے والے زہد کرنے

الْقَاعِدِ الرَّكِعِ السَّاجِدِ التَّابِعِ الشَّهِيدِ الْوَلِيِّ

والے کھڑے ہونے والے نماز میں بیٹھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے

الْحَمِيدِ الْبُرْهَانَ الْحُجَّةِ الْمَطَاعِ الْمَخْتَارِ

والے تابع گواہ دوست خدا تعریف کی گئی دلیل حجت اطاعت کئے گئے برگزیدہ عاجزی

الْمُخَاضِعِ الْخَاشِعِ الْبَرِّ الْمُسْتَنْصِرِ الْحَقِّ

کرنے والے فروتنی کرنے والے نیک مدد کرنے والے راست و

الْمُبِينِ ظَهَائِسِ الْمُرْمَلِ الْمُدْثِرِ سَيِّدِ

روشن ظہائیس کبل پوش چادر لپٹنے والے سردار

الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمِ

پیغمبروں کے اور پیشوا پر مہیزگاروں کے اور آخر تمام

النَّبِيِّينَ وَحَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ النَّبِيِّ

نبیوں کے اور دوست پروردگار تمام جہانوں کے پیغمبر

الْمُصْطَفَىٰ وَالرَّسُولِ الْمَجْتَبَىٰ وَالْحَكِيمِ

برگزیدہ اور رسول مقبول اور منصف

الْعَدْلِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ

عادل پاکیزہ خبردار دانا جاننے والے غالب

الْعَزِيزِ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ الْغَفُورِ الشَّكُورِ

حجت والے مہربان بخشنے والے شکر کرنے والے برتر بزرگ

الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ نُورِكَ الْقَدِيمِ وَصِرَاطِكَ

آپ کے نور قدیم اور راہ آپ کی

الْمُسْتَقِيمِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

جو سیدھی محمد ﷺ بندے تیرے اور رسول تیرے

وَصَفِيَّتِكَ وَخَلِيلِكَ وَحَبِيبِكَ وَوَلِيِّكَ وَنَبِيِّكَ

اور برگزیدہ تیرے اور دوست تیرے اور حبیب تیرے اور ولی تیرے اور نبی

وَأَمِينِكَ وَدَلِيلِكَ وَنَجِيَّتِكَ وَنُحْبَتِكَ وَذَخِيرَتِكَ

تیرے اور امانت دار تیرے اور تیرا راستہ دکھانے والے اور ہمراز تیرے اور برگزیدہ

وَخَيْرَتِكَ وَإِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ

تیرے اور ذخیرہ تیرے اور مختار تیرے اور پیشوائے نیکی کے اور کھینچنے والے نیکی کے

الرَّحْمَةِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ

اور بھیجے ہوئے واسطے رحمت کے پیغمبر امی عرب کے رہنے والے قبیلہ قریش سے

الْأَبْطَحِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدِينِيِّ الْتِهَامِيِّ الشَّاهِدِ

اولاد ہاشم کے بطحا والے مکہ والے مدینہ والے تہام والے گواہ

الْمَشْهُودِ الْوَلِيِّ الْمُقَرَّبِ الْعَبْدِ الْمَسْعُودِ

گواہی دیئے گئے دوست مقرب بندے نیک

الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ الْحَسِيبِ الرَّفِيعِ الْمَلِيحِ

محبوب سفارش کرنے والے صاحب حسب بلند مرتبہ ملاحظت

الْبَدِيعِ الْوَاعِظِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ الْعُطُوفِ

والے ناور نصیحت کرنے والے بشارت دینے والے ڈرانے والے بہت مہربان

الْحَلِيمِ الْجَوَادِ الْكَرِيمِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ

تھمیل والے سخی بخشش کرنے والے پاک صاحب برکت صاحب

الْمَكِينِ الصَّادِقِ الْمُصَدِّقِ الْأَمِينِ الدَّاعِي

مرتبہ سچے سچا کئے گئے امانت دار بلانے والے

إِلَيْكَ يَا ذُنُوكَ السِّرَاحِ الْمُنِيرِ الَّذِي أَدْرَكَ

خلق کو طرف تیرے حکم تیرے سے چراغ روشن ایسے کہ جس نے جانا اصل

الْحَقَائِقَ بِجَمَّتِيهَا وَقَاسَرَ وَفَاقَ الْخَلَائِقَ بِرُمَّتِيهَا

چیزوں کو تمام و کمال اور کامیاب ہوئے اور بالا ہوئے مخلوقات پر ساری اور

وَجَعَلْتَهُ حَبِيبًا وَنَاجِيَةً قَرِيبًا وَأَدْنَيْتَهُ

بنایا تو نے ان کو دوست اور ہمراز کیا تو نے ان کو قرب سے اور نزدیک دی تو

رَقِيبًا وَخَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَالذَّلَالََةَ وَالْبَشَارَةَ

نے ان کو نگہبان ہو کر اور ختم کی تو نے ان پر رسالت اور راہنمائی اور خوشخبری

وَالنَّذَارَةَ وَالنُّبُوَّةَ وَنَصْرَتَهُ بِالرُّعْبِ وَظَلَمَتَهُ

اور ڈرانے اور نبوت کو اور مدد کی تونے ان کی ساتھ دہشت کے اور سایہ

بِالسُّحْبِ وَرَدَدَتْ لَهُ الشَّمْسَ وَشَقَّقَتْ

دیا تونے ان کو ابر کا اور پھیرا تونے واسطے ان کے آفتاب کو اور پھاڑا تونے

لَهُ الْقَمَرَ وَأَنْطَقَتْ لَهُ الضَّبَّ وَالطَّبِيَّ وَ

واسطے ان کے چاند کو اور گویا کیا تونے واسطے ان کے سوسمار اور ہرن اور

الذِّئْبَ وَالْجِدْعَ وَالذِّرَاعَ وَالْجَمَلَ وَالْجَبَلَ

بھیڑیئے کو اور تنا درخت اور بازو اور اونٹ اور پہاڑ

وَالْمَدْرَسَ وَالشَّجَرَ وَالْحَجَرَ وَأَنْبَعَتْ مِنْ

اور ڈھیلا اور درخت اور پتھر کو اور نکالا تونے ان کی

أَصَابِعِهِ الْمَاءَ الزُّلُولَ وَأَنْزَلَتْ مِنَ السُّزْنِ

انگلیوں سے پانی میٹھا اور نازل کی تونے ابر سفید سے

بِدَعْوَتِهِ فِي عَامِ الْمَحَلِّ وَالْجَدْبِ وَابِلَ

ان کی دعا سے بیج سال قحط اور خشکی کے زور دار

الْغَيْثِ وَالْمَطَرِ فَأَعْشَوْشَبَ مِنْهُ الْقُرُورُ

بارش اور مینہ پھر ہری ہوئی اس سے سوکھی اور

الصُّخْرُ وَالْوَعْرُ وَالسَّهْلُ وَالرَّمْلُ وَالْحَجَرُ

پتھریلی اور سخت زمین اور نرم زمین اور ریگستان اور پتھر

وَالْمَدَارُ وَأَسْرَيْتَ بِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور ڈھیلا اور لے گیا تو ان کو ایک رات مسجد کعبہ سے

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى السَّمَوَاتِ الْعُلَى

مسجد اقصیٰ تک پھر بلند آسمانوں تک پھر

إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

سدرۃ المنتہیٰ تک پھر اس مقام تک کہ فرق دو گوشہ کمان کا

وَأَرَيْتَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى وَأَنْتَهُ الْغَابِيَةَ

یا اس سے کم تھا اور دکھائی تو نے ان کو نشانی بڑی اور پہنچایا تو نے ان کو

الْقُصُوٰى وَآكْرَمَتَهُ بِالسَّمَاطِ وَالْمُرَاقِبَةِ

نہایت مرتبہ اعلیٰ کو اور بزرگی دی تو نے ان کو ساتھ باتیں کرنے کے اور نگہبانی کے

وَالْمُشَافَهَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْمُعَايَنَةَ بِالْبَصْرِ

اور رو برو ہونے کے اور حضور میں جانے کے اور دیکھنے کے بینائی سے اور

وَتَخَصُّصَتَهُ بِالْوَسِيلَةِ الْعُظْمَى وَالشَّفَاعَةَ

خاص کیا تو نے ان کو ساتھ وسیلہ بزرگ کے اور سفارش بڑی

الْكُبْرَى يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ فِي الْمَحْشَرِ وَجَبَعَتِ

کے دن خوف بڑے کے محشر میں اور جمع کئے

لَهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَجَوَاهِرَ الْحِكْمِ وَ

تو نے واسطے ان کے معنی خیز کلمات اور جواہر حکمتوں کے اور

جَعَلَتْ أُمَّتَهُ خَيْرَ الْأُمَمِ وَعَفَرَتْ لَهُ مَا

کیا تو نے اُن کی اُمت کو سب اُمتوں سے بہتر اور بخشنے تو نے اُن کے سب سے گناہ

تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ الَّذِي بَلَغَ الرِّسَالَهَ

اُن کے انگوں کے اور اُن کے پچھلوں کے وہ کہ پہنچایا

وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ الْغُمَّةَ

انہوں نے احکام پیغمبری کو اور ادا کی امانت اور خیر خواہی کی اُمت کی اور دور کیا

وَجَلَى الظُّلْمَةِ وَجَاهِدْنِي سَبِيلَ اللَّهِ وَعَبَدَ

غم کو اور روشن کیا تاریکی کو اور کوشش کی اللہ کے راستہ میں اور عبادت کی اپنے

رَبِّهِ حَتَّى آتَاهُ اللَّهُ الْيَقِينَ اللَّهُمَّ اَبْعَثْهُ مَقَامًا

رب کی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئی سے اللہ بھیجے اُن کو مقام محمود میں کہ

مَحْمُودًا يُعْبِطُهُ فِيهِ الْاَوَّلُونَ وَالْاٰخِرُونَ

رُشک کریں آپ پر اس میں پہلے اور پچھلے سے

اللَّهُمَّ عَظِّمَهُ فِي الدُّنْيَا بِاعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَاِظْهَارِ

اللہ بڑائی دے اُن کو دنیا میں ساتھ بلند کرنے ذکر ان کے اور ظاہر

دِينِهِ وَاِبْقَاءِ شَرِيْعَتِهِ وَفِي الْاٰخِرَةِ

کرنے دین اُن کے اور باقی رکھنے شریعت ان کی کے اور آخرت میں ساتھ

بِشَفَاعَتِهِ فِي اُمَّتِهِ وَاَجْرًا مَثُوْبَةً

شفاعت اُن کی کے آپ کی اُمت میں اور عطا فرما اجر اور ثواب آپ کا اور ظاہر

وَاَبْدًا فَضْلَهُ لِلْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ بِالْمَقَامِ

فضیلت آپ کی سب پہلوں اور پچھلوں کے لیے

مقام

الْمَحْمُودِ وَتَقْدِيمَهُ عَلَى كَافَّةِ الْمُقَرَّبِينَ

محمود میں اور ساتھ مقدم کرنے ان کے اوپر تمام مقربوں حاضر

بِالشُّهُودِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرَى وَارْفَعْ

بارگاہ کے لئے اللہ قبول کر ان کی بڑی شفاعت کو اور اونچا کر

دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ

ان کے بلند درجہ کو اور عطا کر ان کو ان کے مطالب دنیا اور آخرت میں

وَالأُولَى كَمَا أَعْطَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

جیسا کہ دیا تو نے ابراہیم اور موسیٰ کو

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ أَكْرَمِ عِبَادِكَ عَلَيْكَ

لے اللہ کر تو ان کو اپنے تمام بندوں میں سب سے بزرگ باعتبار بڑائی

شَرَفًا وَكَرَامَةً وَمِنْ أَرْفَعِهِمْ عِنْدَكَ

کے اور کرامت کے اور سب سے بلند اپنے نزدیک باعتبار درجہ کے اور

دَرَجَةً وَأَعْظَمِهِمْ عِنْدَكَ خَطَرًا وَأَمْكِنِهِمْ عِنْدَكَ

سب بڑا اپنے نزدیک باعتبار قدر کے اور سب سے توانا نزدیک اپنے باعتبار

شَفَاعَةٌ اللَّهُمَّ عَظْمُ بُرْهَانِهِ وَ أَفْلَحُ

شفاعت کے لئے اللہ با عظمت کر ان کی دلیل کو اور ظاہر کر ان کی دلیل

حُجَّتِهِ وَأَبْلَغُهُ مَأْمُولُهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ

نبوت کو اور پہنچا ان کو ان کی آرزو تک ان کے اہل بیت اور

وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ اتَّبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأُمَّتِهِ

ان کی اولاد میں لئے اللہ پیچھے پہنچا انہیں تو ان کی اولاد سے اور امت ان

مَا تُقَرِّبُهُ عَيْنُهُ وَأَجْرُهُ عَنَّا خَيْرٌ مَّا جَزَيْتَ

کی سے وہ نعمت کہ روشن ہو اس سے آنکھ ان کی اور بدلہ دے ان کو ہم سے

بِهِ نَبِيًّا عَنِ أُمَّتِهِ وَأَجْرُ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ خَيْرٌ

بہت اچھا اس سے کہ دیا تو نے کسی نبی کو ان کی امت سے اور بدلہ دے تو سب نبیوں کو اچھا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

لئے اللہ درود و سلام بھیج اوپر سردار ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے

مَا شَاهَدَتْهُ إِلَّا بَصَارٌ وَسَمِعَتْهُ إِلَّا أَذَانٌ

بشمار اس کے کہ دیکھیں اس کو بنائیاں اور سنیں اس کو کان اور درود

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ

اور سلام بھیج اوپر ان کے بشار ان کے کہ جو درود بھیجیں ان پر اور درود

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

وسلام بھیج اوپر ان کے بشار ان کے کہ درود نہ بھیجیں ان پر اور درود

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ

اور سلام بھیج اوپر ان کے جیسے کہ چاہے تو اور رضا ہو تیری اس میں کہ درود

يُصَلِّي عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا أَمَرْنَا أَنْ نُصَلِّي

بھیجا جاوے ان پر اور درود و سلام بھیج اوپر ان کے جیسا کہ حکم کیا تو نے کہ درود

عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يُنْبَغِي أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ

بھیجیں ہم اوپر ان کے اور درود اور سلام بھیج ان پر جیسا کہ سزاوار ہے یہ کہ درود بھیجا جاوے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ نِعْمَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

ان پر سے اللہ درود اور سلام بھیج ان پر اور ان کی اولاد پر بشمار نعمتوں اللہ تعالیٰ کے اور

وَأَفْضَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ

افزائشوں اس کی کے اے اللہ درود اور سلام بھیج محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب

أَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَعِثْرَتِهِ

پر اور ان کی اولاد پر اور ان کی بیبیوں پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے گھر والوں پر اور ان

وَعَشِيرَتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَخْتَانِهِ وَأَحْبَابِهِ وَ

کے رشتہ دار اور قبیلہ والوں پر اور آپ کے کسراں والوں پر اور دامادوں پر اور ان کے دوستوں

اتَّبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ خَزَنَةِ أَسْرَارِهِ وَ

پر اور ان کے پیروؤں پر اور ان کے گروہ اور ان کے مددگاروں پر جو نگہبان ہیں ان کے بھیدوں

مَعَادِنِ الْوَارِدَةِ وَكُنُوزِ الْحَقَائِقِ وَهُدَاةِ الْخَلَائِقِ

کے اور کانیں ہیں ان کے انوار کی خزانے حقیقتوں کے اور راہنما مخلوقات کے اور ستارے

وَنُجُومِ الْإِهْتِدَاءِ لِيَمُنَّ أَقْدَى بِهِمْ وَسَلَامٌ

ہدایت کے واسطے اس کے جو ان کی پیروی کرے اور سلام بھیج

تَسْلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا وَأَرْضَ عَنْ كُلِّ

بہت بہت سلام دائمی ہمیشہ اور راضی ہو تمام

الصَّحَابَةِ رِضَى سَرْمَدًا عَدَدَ خَلْقِكَ وَزِينَةَ

صحابہ سے رضامندی دائمی بشمار خلق کے اور موافق

عَرْشِكَ وَرِضَانُفِيكَ وَمِدادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا

وزن عرش اپنے کے اور خوشی ذات اپنی کے اور موافق اندازے سیاہی کلمات اپنے کے

ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ وَكُلَّمَا سَهَى عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ

جب تک کوئی ذکر کرنے والا آپ کا ذکر کرے اور جب تک کوئی غافل آپ کا ذکر بھولے وہ

صَلْوَةٌ تَكُونُ لَكَ رِضَى وَرِحْقِيهِ آدَاءٌ وَلِنَا صِدَاقًا

دُور و جو سبب ہو آپ کی رضامندی کا اور ان کے حق کی ادائیگی کا اور ہمارے لیے بھلائی کا

وَآيَةُ الْوَسِيْلَةِ وَالْفَضِيْلَةِ وَالذَّرَجَةِ الْعَالِيَةِ

اور وہ ان کو مقام وسیلہ کا اور فضیلت کا اور مرتبہ بلند و برتر

الرَّفِيْعَةِ وَابْعَثَهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ وَاللِّوَاءَ

اور عطا کر ان کو مقام محمود اور نشان بستہ اور

الْمَعْقُودَ وَالْحَوْضَ الْمَوْرُودَ وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَيَّ

حوض کوثر وارو ہوگی اُمت اس پر اور رحمت بھیجے اللہ اوپر سب

جَمِيْعِ اِخْوَانِيهِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

بھائیوں اُن کے کے نبیوں اور پیغمبروں اور

وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصُّلِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ

ولیوں اور نیکوں اور شہیدوں اور صدیقوں

وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ

اور اپنے ملائکہ مقربین میں سے اور اوپر سردار ہمارے شیخ

مُحَمَّدِ الدِّينِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْمَكِّيِّ

محمد الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی کے جو صاحب مرتبہ اور

الْأَمِينِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ

حایل امانت ہیں رحمتیں اللہ کی ان سب پر اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ورد و سلام بھیج اوپر سردار ہمارے محمد ﷺ کے اور اوپر اولاد سردار

مُحَمَّدِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورَةَ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ

ہمارے محمد ﷺ کے کہ پہلا ہے سب خلقت سے نور ان کا رحمت ہے واسطے

ظُهُورُهُ عَدَدَ مَا مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَا بَقِيَ وَ

جہانوں کے ظہوران کا موافق عدد اس مخلوق کے جو گزر چکی اور جو باقی ہے اور

مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةً تَسْتَعْرِقُ

جو نیک بخت ہیں ان میں سے اور جو بد بخت ہیں ایسی رحمت جو شمار سے

الْعَدَّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةً لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا

باہر ہو اور متجاوز ہو حد سے وہ رحمت کہ نہ حد ہو اس کی اور نہ نہایت اور

انْتِهَاءً وَلَا أَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءً لَهَا صَلَوةً الَّتِي

نہ اندازہ اس کا اور نہ تمامی اس کی وہ درود اپنا کہ بھیجا تو نے

صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَوةً مَعْرُوضَةً عَلَيْهِ مَقْبُولَةٌ

اوپر ان کے ایسا درود کہ پیش کیا گیا اوپر ان کے قبول کیا گیا

لَدَيْهِ مَحْبُوبَةٌ إِلَيْهِ صَلَوةً دَائِمَةً بِدَاوَامِكَ

نزدیک ان کے محبوب ان کو درود ہمیشہ رہنے والا ساتھ ہمیشگی تیری کے

بَاقِيَةٌ بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عَلَيْكَ صَلَوةً

اور باقی ساتھ بقاء تیری کے نہ انتہا اس کی ہو بجز علم تیرے کے ایسا درود

تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَا صَلَوةً تَمْلَأُ

کہ خوش کرے تجھ کو اور خوش کرے تو اس کو اور خوش ہو تو بسبب اس کے ہم سے

الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ (مقام سجدہ اول) صَلَوَةٌ تَسْجِيبُ

ایسا درود کہ بھروسے زمین اور آسمان کو (قلوبنا تک سجدہ میں پڑھو) ایسا درود کہ

بِهَادُعَاءَنَا وَتُرْكِي بِهَا نَفُوسَنَا وَتُحْيِي بِهَا

قبول کرے تو بسبب اس کے دُعا ہماری اور پاک کرے تو بسبب اس کے ہماری

قُلُوبَنَا وَتُخِلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَتُفَرِّجُ بِهَا الْكُرْبَ

جانیں اور زندہ کرے بسبب اس کے ہمارے دل اور کھولے بسبب اس کے گرہیں اور دور کرے

(مقام سجدہ دوم) وَيَجْرِي بِهَا لُطْفُكَ فِي أَمْرِي

تو اس سے سختیوں کو اور جاری ہو بسبب اس کے مہربانی تیری میرے کام میں اور

وَأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ (مقام سجدہ سوم) وَبَارِكْ لَنَا عَلَى

کاموں میں مسلمانوں کے اور برکت دے تو ہمیں اُوپر

الدَّوَامِ وَعَاقِبَتَنَا وَاهْدِنَا وَامْدُدْنَا وَاجْعَلْنَا

بمیشگی کے اور بچا تو ہمیں اور راہ بتا ہم کو اور مدد دے ہم کو اور کر ہم کو

أَمْنِينَ وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ يِقْلُوبَنَا وَ

بے خوف اور آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے کام ساتھ آرام کے واسطے دلوں

أَبَدًا إِنَّا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَ

ہمارے کے اور بدلوں ہمارے کے اور ساتھ سلامتی اور عافیت کے ہمارے دین

آخِرَتِنَا وَتَوَفَّنَا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاجْمَعُنَا

اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت میں اور وفات دے ہم کو اوپر قرآن اور طریقہ پیغمبر کے

مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ عَذَابٍ يُسَبِّقُ بِنَا وَ

اور جمع کر ہمیں ان کے ساتھ جنت میں بغیر عذاب کے کہ دخول جنت سے پہلے ہو

أَنْتَ رَاضٍ عَنَّا غَيْرَ غَضَبَانَ وَلَا تَمَكُرْ بِنَا وَ

دراں عالیکہ تو خوش ہو ہم سے نہ ناراض اور نہ آزمانا ہمیں اور خاتمہ کر

أُحْتِمَ لَنَا مِنْكَ بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ بِإِلْحَانَةٍ

ہمارا اپنی طرف ساتھ بہتری اور عافیت کے بغیر محنت کے سب

اجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

کا پاکی سے یاد کرتا ہوں اپنے پروردگار کو پروردگار بزرگی کا اس سے جو بیان

يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

کرتے ہیں مشرک اور سلامتی اوپر پیغمبروں کے اور سب تعریف اللہ کو

سَرِّ الْعَالَمِينَ ۝ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

جو پالنے والا جہانوں کا ہے تیری رحمت سے اے سب زیادہ رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے

درود اکسیر اعظم

یہ درود حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ نے حضور ﷺ کی شان میں لکھا اور اس کا نام اکسیر اعظم رکھا گیا اس کا یہ نام یعنی اکسیر اس لئے رکھا گیا کہ اکسیر دھاتوں کو سونا بنا دیتی ہے ایسے ہی یہ درود اپنے پڑھنے والوں کو ظاہری اور باطنی لحاظ سے سونے کی مانند کر دیتا ہے حضور غوث پاک کو یہ درود بہت پسند تھا اور آپ نے اپنے معمول میں اکثر پڑھا۔ اس لئے سلسلہ قادریہ کے اکثر اصحاب طریقت نے اسے پڑھا ہے اور اس کے بے پناہ فیوض و برکات پائے ہیں۔ یہ درود نہایت ہی جامع ہے اگر کوئی شخص حصول روحانیت کی غرض سے اسے ایک مرتبہ بعد نماز فجر اور ایک مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھے تو اس پر معرفت کی راہیں کھل جائیں گی اگر اسے کوئی مرشد کامل نہ ملا

ہو تو اس درود کی برکت سے اسے مرشد کامل مل جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ کی حضوری نصیب ہو جائے گی اور آخر اس کا شمار اللہ کے خاص بندوں میں ہو جائے گا اور جو شخص اسے ہفتہ میں ایک بار پڑھ لیا کرے اس کی مرادیں پوری ہوں گی جمیع آفات سے محفوظ رہے گا رزق میں اضافہ ہوگا غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ کاروبار میں برکت ہوگی دل کو تسکین رہے گی عزیز و اقارب اور اپنے پرانے ہمیشہ عزت کریں گے۔ اگر کوئی شخص قید میں اسے کثرت سے پڑھے تو اسے قید سے خلاصی ملے گی۔ اور اگر کوئی شفا کے امراض کی نیت سے اسے پڑھے تو اسے شفاء حاصل ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

تعریف کرتے ہیں ہم اللہ کی اور درود بھیجتے ہیں اسکے رسول بزرگ پر،

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے محمد ﷺ پر

صَلَوَةٌ تَقْبَلُ بِهَا دُعَاؤُنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

ایسا درود جس سے قبول کرے تو دعا ہماری، اے اللہ رحمت بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَسْمَعُ بِهَا

سرور ہمارے اور نبی ہمارے محمد ﷺ پر ایسی رحمت کہ سنے تو اس

اسْتِغَاثَتْنَا وَنِدَاءَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

سے فریاد اور پکار ہماری، اے اللہ درود بھیج اوپر سرور ہمارے اور

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُسَلِّمُ بِهَا إِيْمَانَنَا

نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ سلامت رکھے تو اس سے ایمان ہمارا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اے اللہ درود بھیج اوپر سرور اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود

تُقَوِّي بِهَا إِيْقَانَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

کہ قوی کر دے تو اس سے یقین ہمارا، اے اللہ درود بھیج اوپر سرور اور

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَغْفِرُ بِهَا ذُنُوبَنَا اللَّهُمَّ

نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ بخش دے اس سے گناہ ہمارے اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَرِ سَرْدَارِ اَوْرِ نَبِيِّ هَمَارِ مُحَمَّدٍ ﷺ كِى وَه دُرُودِ

تَسْتُرِبْهَا عِيُوْبَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

كِه چھپا دے تُو اس سے عِيِبِ هَمَارِ اے اللّٰهُ دُرُودِ بَیْحِ تُو اُوْبَرِ سَرْدَارِ

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ اَلْسِيَابِ

اَوْرِ نَبِيِّ هَمَارِ مُحَمَّدٍ ﷺ كِى وَه دُرُودِ كِه حَفَاظَتِ كِرِى تُو هَمَارِى اس سے

السِّيَّاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

گناہ كِرِنِى سے اے اللّٰهُ دُرُودِ بَیْحِ تُو اُوْبَرِ سَرْدَارِ اَوْرِ نَبِيِّ هَمَارِ مُحَمَّدٍ ﷺ

صَلَوةً تُوفِّقُنَا بِهَا لِعَمَلِ الصّٰلِحَاتِ اَللّٰهُمَّ

كِه وَه دُرُودِ كِه تُوفِّقِى دے تُو هَمِيں اس سے نِيَكِ كَامِ كِرِنِى كِى اے اللّٰهُ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

دُرُودِ بَیْحِ تُو اُوْبَرِ سَرْدَارِ اَوْرِ نَبِيِّ هَمَارِ مُحَمَّدٍ ﷺ كِى وَه دُرُودِ كِه خَلَامِى

تُفْلِحُ بِهَا عَمَّا يُرَدُّنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دے تُو هَمِيں اس كِه ذَرِيْعَه اس چيز سے چُو هَلَاكِ كِرِى هَمِ كُو اے اللّٰهُ دُرُودِ بَیْحِ تُو

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكْسِبُ بِهَا مَا

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ سے وہ درود کہ نصیب کرے تو ہمیں وہ جو نجات

يُنْجِينَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

دے ہم کو، اے اللہ درود بھیج تو اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُجَنِّبُ بِهَا عَنَّا الشَّرَّ كُلَّهُ

محمد ﷺ کے وہ درود کہ دور کرے تو اس سے ہم سے شر تمام کو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اے اللہ درود بھیج تو اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ

تَمْنَحُنَا بِهَا الْخَيْرَ كُلَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نصیب کرے تو ہم کو اس سے تمام بھلائیاں، اے اللہ درود بھیج تو اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُحَسِّنُ

سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ سے وہ درود کہ اچھے کرے تو اس سے

بِهَا أَخْلَاقَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

اخلاق ہمارے، اے اللہ درود بھیج تو اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُصَلِّحُ بِهَا أحوَالَنَا اللَّهُمَّ

محمد ﷺ کے وہ دُروود کہ نیک کرے تو اس سے احوال ہمارے، اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

دُروود بھیج اُوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُروود کہ

تُعَصِّمُنَا بِهَا عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَالْغَوَايَةِ

بچائے تو ہم کو بسبب اس کے گناہ اور گمراہی سے،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ دُروود بھیج اُوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے

صَلَوَةٌ تَرْتُقِنَا بِهَا اتِّبَاعَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

وہ دُروود کہ نصیب کرے تو اس سے اتباع سنت اور جماعت کی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اے اللہ دُروود بھیج اُوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُروود

تُبْعِدُنَا بِهَا مِنْ اقْتِرَانِ الْأَفَاتِ اللَّهُمَّ

کہ دور کرے تو ہم کو اس سے نزدیک ہونے آفتوں سے اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

دُرُودِ بَیْحِ اُوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرُود کہ

تَكَلُّنَا بِهَا عَنِ الزَّلَّاتِ وَالْهَفُوتِ اَللّٰهُمَّ

بچلوے تو ہم کو اس کے سبب لغزشوں سے اور خطاؤں سے، اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

دُرُودِ بَیْحِ اُوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرُود کہ

تُحْصِلُ بِهَا اَمَانًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

تو اس سے آرزو میں ہماری اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُخْلِصُ بِهَا لَكَ

نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرُود کہ خالص کرے تو اس سے اپنے لیے

اَعْمَانًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

عمل ہمارے اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ اُوپر سردار اور نبی ہمارے اور

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُ بِهَا التَّقْوَى زَادَنَا

محمد ﷺ کے وہ دُرُود کہ کرے تو بسبب اس کے تقویٰ کو زائد راہ ہمارا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ درود بھیج اُوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ

تَزِيدُ بِهَا فِي دِينِكَ اجْتِهَادَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

زیادہ کرے تو اس سے اپنے دین میں کوشش ہماری اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَرْسُقُنَا

اُوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ نصیب کرے

بِهَا الْإِسْتِقَامَةَ فِي طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تو ہمیں اس سے استقامت اپنی عبادت میں اے اللہ درود بھیج اُوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا

سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ نصیب کرے تو اس

بِهَا الْإِنْسَ بِعِبَادَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سے الفت ساتھ اپنی عبادت کے اے اللہ درود بھیج اُوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحَسِّنُ بِهَا نَيْتَنَا

اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ اچھا کرے تو اس نیت ہماری

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

اے اللہ درود بھیج اُوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے، وہ درود

تَمْنَعُنَا بِهَا أَمْنِيَّتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

کہ پوری کرتا تو اس سے آرزو ہماری، اے اللہ درود بھیج اُوپر سردار اور

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُجِيرُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ

نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ بچائے تو اس کے سبب ہم کو انسانوں

الْإِنْسِ وَالْجَانِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

وہ جنوں کے شر سے، اے اللہ درود بھیج اُوپر سردار اور نبی

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ وَ

ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ پناہ دے تو ہم کو بسبب اس کے نفس اور

الشَّيْطَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

شیطان کے شر سے، اے اللہ درود بھیج اُوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ

صَلَاةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الذَّلَّةِ وَالْقِلَّةِ اللَّهُمَّ

کے وہ درود کہ حفاظت کرے تو ہماری اس کے سبب ذلت اور خواری

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا

سے اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ پناہ دے

بِهَامِنَ الْقَسُوَّةِ وَالْغَفْلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تو ہمیں اس کے سبب سختی دل اور غفلت سے اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ حفاظت کرے تو ہماری انکے سبب

عَمَّا يَشْغَلُنَا عَنْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

اس چیز سے جو باز رکھے ہیں تجھ سے، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُؤَفِّقُنَا بِهَا لِمَا تُقَرِّبُنَا

نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ توفیق دے تو ہمیں اس سے اس چیز

مِنْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

کی جو تیرے قریب کرے، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے

صَلَوةً تَجْعَلُ بِهَا سَعِينًا مُشْكُورًا وَعَمَلَنَا

وہ درود کہ کرے تو اس کے سبب کوشش ہماری مشکور اور عمل ہمارا

مَقْبُولًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

مقبول، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے

صَلَاةً تَمُنِّحُنَا بِهَا عِزًّا وَقَبُولًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

وہ درود کہ دے ہم کو اس سے عزت اور قبولیت اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَقْطَعُ بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ قطع کرے تو اس سے

عَمَّنْ سِوَاكَ إِحْتِيَاجَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اپنے سوا سے محتاجی ہماری اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُدِيمُ بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ ہمیشہ کرے تو اس سے

بِنِعْمَائِكَ إِنِّيهَا جَنَّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اپنی نعمتیں وافر ہم پر، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ بِهَا فِي جَمِيعِ

اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ ہو تو بسبب اس کے ہمارے تمام

أُمُورِنَا وَكَيْلًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

امور میں کارساز ہمارے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ بِهَا لِقْضَاءُ

محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ ہو تو بسبب اس کے واسطے پورا کرتے حاجتوں

حَوَائِجِنَا كَفِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

ہماری کے ضامن ، اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور نبی

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ

ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ پناہ دے تو ہم کو اس سے تمام

الْبَلَاءِ يَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

بلاؤں سے ، اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے

صَلَاةً تَمُنِّحُنَا بِهَا جَزِيلَ الْعَطَايَا اللَّهُمَّ صَلِّ

وہ دُرود کہ عطا کرے تو ہم کو اس کے سبب بڑی عطائیں اے اللہ دُرود

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْزُقُنَا

بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ نصیب کرے

بِهَاعِيشِ الرَّغَدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

تو ہم کو اس سے تازہ رزق لے۔ اللہ درود بھیج اوپر سردار اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمُنُّنَا بِهَاعِيشِ

نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ دے تو ہم کو اس سے روزی

السُّعَدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

نیک بختوں کی لے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے

صَلَوَةٌ تُسَهِّلُ بِهَاعَلَيْنَا جَمِيعَ الْأُمُورِ اللَّهُمَّ

وہ درود کہ آسان کرے تو اس سے ہم پر تمام کام لے اللہ درود

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُدِيمُ

بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ ہمیشہ کے

بِهَابِرْدِ الْعِيشِ وَالسُّرُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

تو اس سے ٹھنڈک عیش اور خوشی کی لے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُبَارِكُ بِهَاعَلَيْنَا

اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ برکت دے تو اس کے سبب اس میں

أَعْطَيْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

جو تونے ہم کو دیا ہے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا بِهَا الرِّضَاءَ بِمَا

محمد ﷺ کے وہ درود کہ نصیب کرے تو اس سے ہم کو رضا اس میں جو دیا

اتَيْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

تونے ہم کو ہے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ

صَلَوةً تُزَكِّي بِهَا عَنِ الْهَوَى نَفُوسَنَا اللَّهُمَّ

درود کہ پاک کرے تو اس سے خواہشات نفسانی ہماری ، اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ پاک کرے

تُطَهِّرُ بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ قُلُوبَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

تو اس کے سبب اپنے سوا سے دل ہمارے اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُصَغِّرُ

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ حقیر کر دے تو

بِهَا الدُّنْيَا فِي عِيُونِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اس سے دنیا کو ہماری آنکھوں میں اسے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعْظِمُ بِهَا جَلَالَكَ

اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ بڑی کرے تو اس سے عظمت اپنی

فِي قُلُوبِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

ہمکے دلوں میں اسے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُرْضِينَا بِهَا بِقَضَائِكَ

محمد ﷺ کے وہ درود کہ راضی کرے تو اس سے ہم کو ساتھ قضا اپنی کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اسے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے

تُوزِعُنَا بِهَا شُكْرَ نِعْمَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

وہ درود کہ شکر اپنی نعمتوں کا ، اسے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُصِحِّحُ

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ صحیح

بِهَا تَوَكَّلْنَا وَاعْتَمَدْنَا عَلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کرے تو اس سے توکل اور اعتماد ہمارا اپنے پرے اللہ درود

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَحَقِّقُ

بیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ ثابت کرے

بِهَا وَتُوقِنَا وَالتَّجَانُّنَا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تو اس سے ہمارا عہد اور التجا ہماری اپنی طرف سے اللہ درود بیج

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرَضِّيكَ

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ سے وہ درود کہ جو راضی کرے تجھ

وَتُرَضِّيهٖ وَتُرَضِّي بِهَا عَنَّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کو اور حضور کو اور راضی ہو تو اس کے سبب ہم سے لے اللہ درود

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُجِيرُهَا

بیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ پورا دے تو اس کے

مَافَاتٍ مِنَّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

سبب جو فوت ہوا ہم سے لے اللہ درود بیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ الْعُجْبِ

محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ بچائے تو ہم کو اس کے سبب تکبر اور دکھلاوے

وَالرِّيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

سے اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے

صَلَوةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الْحَسَدِ وَالْكِبْرِيَاءِ

وہ دُرود کہ حفاظت کرے تو ہماری اس کے سبب حسد اور تکبر سے،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے

صَلَوةً تُكْسِرُ بِهَا شَهَوَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

وہ دُرود کہ ختم کرے تو اس سے خواہشیں ہماری اے اللہ دُرود

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُجْزِي

بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ عمدہ کرے تو سبب

بِهَا عَادَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

اس کے عادتیں ہماری اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَّى صَلَوةٌ تُصْرِفُ بِهَا عَنِ الدُّنْيَا

محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ پھیر دے تو اس کے سبب دنیا اور اس ک

وَلَذَاتِهَا قُلُوبَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

لذتوں سے دل ہمارے اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى صَلَوةٌ تَجْمَعُ بِهَا فِي الْإِشْتِيَاقِ

نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ جمع ہو جائیں اس کے سبب تیرے

إِلَيْكَ هُمْ وَمَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

اشتیاق میں قصد ہمارے، اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَّى صَلَوةٌ تُوَحِّشُنَا بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ

محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ ڈرائے تو ہم کو اس کے سبب اپنے غیر سے،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ

صَلَوةٌ تُؤْنِسُنَا بِهَا بِقُرْبِكَ وَلَا تَكُ اللَّهُمَّ

دُرود کہ اُنس پیدا کرے تو ہمارے ساتھ اس سے اپنی محبت کے قریب

صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ

تُقَرِّبَهَا فِي مُنَاجَاتِكَ عِيُونَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

ٹھنڈی ہوں اس سے تیری مناجات میں آنکھیں ہماری، اے اللہ درود

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحَسِّنُ

بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ اچھا کرے تو اس

بِهَائِكَ ظُنُونَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

سے اپنے ساتھ گمان ہمارے، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَشْرَحُ بِهَا بِمَعْرِفَتِكَ

ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ کھول دے اس سے تو اپنی معرفت میں

صُدُورَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

دل ہمارے، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُدِيمُ بِهَا فِي ذِكْرِكَ وَ

محمد ﷺ کے وہ درود کہ ہمیشہ کرے تو بسبب اس کے اپنے ذکر و فکر میں

فِكْرِكَ سُورِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

سُور ہمارا ، اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْفَعُ بِهَا عَن قُلُوبِنَا

نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ اٹھاوے تو اس کے سبب ہمارے

الْحُجُبِ وَالْأَسْتَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دلوں سے حجاب اور پردے ، اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمُنِّحُنَا بِهَا شُهُودَكَ

اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ نصیب کرے تو ہم کو اس کے

فِي جَمِيعِ الْأَثَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

سبب حضوری اپنی تمام آثار میں اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَقْطَعُ بِهَا حَدِيثَ

نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ قطع کر دے تو اس سے باتِ نفلوں

نُفُوسِنَا بِأَعْلَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہمارے کی ساتھ اپنے نشانوں کے ، اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُبَدِّلُ بِهَا هَوَاجِسَ

نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ بدل دے تو اس سے خواہشات ہمارے

قُلُوبِنَا يَا لِهَامِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دلوں کی اپنے الہام سے، اے اللہ دُرود بھیج اوپر سرور اور

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُفِيضُ بِهَا عَلَيْنَا

نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ شروع کرے تو اس سے ہم پر

جَذَابَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

جذبات اپنے، اے اللہ دُرود بھیج اوپر سرور اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَشْمَلُنَا بِهَا بِفَحَائِكَ

محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ شامل کرے تو ہم کو اس سے رضا اپنی کو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ دُرود بھیج اوپر سرور اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود

تُحِلُّنَا بِهَا مَنَازِلَ السَّائِرِينَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ

کہ کھول دے تو ہمارے لیے اس سے مراتب اپنے ہمرازوں کے، اے

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ

تَرْفَعُ بِهَا مَنْزِلَتَنَا وَمَكَانَتَنَا لَدَيْكَ اللَّهُمَّ

بلند کرے تو اس سے منازل اور مرتبے ہمارے اپنے نزدیک، اے

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ

تَسْحَقُ بِهَا فِي إِرَادَتِكَ أَمَّا نَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

گم ہو جاویں اس سے ارادے تیرے میں آرزو میں ہماری اے اللہ دُرود

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَسْحَقُ بِهَا

بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ مٹ جائیں اس سے

فِي أَعْمَالِكَ أَفْعَالَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

تیرے کاموں میں کام ہمارے، اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَفْنِي بِهَا فِي

اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ فنا ہو جائیں اس سے

صِفَاتِكَ صِفَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

صفات تیری میں صفات ہماری، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُدْعُوا بِهَا فِي ذَاتِكَ

اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ مٹ جائیں اس سے ذات تیری میں

ذَوَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

ذاتیں ہماری، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُحَقِّقُ بِهَا إِلَيْكَ لِقَاءَنَا

محمد ﷺ کے وہ درود کہ ثابت کرے تو اس سے اپنی طرف ملنا ہمارا،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ

صَلَوةٌ تُدِيمُ بِهَا ثَوَابُ أَوْرَاقِ صِفَاتِنَا

درود کہ ہمیشہ کرے تو اس سے ساتھ پے درپے انوار اپنے کے صفاتی ہماری

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

کو، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ

صَلْوَةٌ تَسْلُكُنَا بِهَا مَسْلَكَ أَوْلِيَاءِكَ اللَّهُمَّ

دُرُودِ کہ چلائے تو ہم کو اس سے مسلک اپنے اولیاء پر لے لے اللہ

صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلْوَةٌ

دُرُودِ بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرُودِ کہ

تُرْوِينَا بِهَا مِنْ شَرَابِ أَصْفِيَاءِكَ اللَّهُمَّ

سیراب کرے تو ہم کو اس سے اپنے اصفیاء کی شراب سے، لے لے اللہ

صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلْوَةٌ

دُرُودِ بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرُودِ کہ

تُوَصِّلُنَا بِهَا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

پہنچائے تو ہم کو اس سے اپنی طرف، لے لے اللہ دُرُودِ بھیج اوپر سردار

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلْوَةٌ تُدِيمُ بِهَا حُضُورَنَا

اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرُودِ کہ ہمیشہ کرے تو اس سے ہماری ماضی

إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اپنی طرف لے لے اللہ دُرُودِ بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے

صَلَاةٌ تَهْوِنُ بِهَا عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

وہ دُرود کہ آسان کرے تو اس سے ہم پر سختی موت کی اور

وَعَمْرَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

تنگی اس کی ، اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تُجِيرُنَا بِهَا مِنْ وَحْشَةِ

محمد ﷺ کے دھورود کہ پناہ دے تو ہمیں اس کے سبب قبر کے خوف اور

الْقَبْرِ وَكُرْبَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

سختی اس کی سے اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَمَلُّ بِهَا قُبُورَنَا بِأَنْوَاسِ

محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ بھروسے تو اس کے سبب قبریں ہماری انوار رحمت

الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

سے ، اے اللہ دُرود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَجْعَلُ بِهَا قُبُورَنَا رَوْضَةً

محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ کر دے تو اس سے قبروں ہماری کو باغ

مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جنت کے باغوں سے ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْشُرُنَا بِهَا مَعَ

اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ حشر کرے تو ہمارا اس کے

النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ساتھ نبیوں اور صدیقوں کے ، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَبْعَتُنَا بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ اٹھائے تو ہم کو اس کے

مَعَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سبب ساتھ شہیدوں اور نیکوں کے ، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا

سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ نصیب کرے تو ہم کو

بِهَا قُرْبَهُ وَشَفَاعَتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اس کے سبب قرب اور شفاعت ان کی ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُفِيضُ بِهَا عَلَيْنَا

اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ پلٹے تو اس کے سبب ہم پر

بَرَكَاتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

برکتیں اپنی اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ

محمد ﷺ کے وہ درود کہ حفاظت کرے تو ہماری اس کے سبب ہر برائی

يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

سے قیامت کے دن اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَشْمَلُنَا يَوْمَ الْجَزَاءِ بِالرَّحْمَةِ

محمد ﷺ کے وہ درود کہ گھیرے ہم کو قیامت کے دن ساتھ رحمت

وَالْكَرَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ

اور بزرگی کے اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُثَقِّلُ بِهَا مِيزَانَنَا

نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ درود کہ بھاری کرے تو اس کے سبب میزان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

ہماری لے اللہ دُرود بھیج اُوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ

صَلَاةً تُثَبِّتُ بِهَا عَلَى الصِّرَاطِ أَقْدَامَنَا

کے وہ دُرود کہ ثابت رکھے تو اس سے پلصراط پر قدم ہمارے ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

لے اللہ دُرود بھیج اُوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے

صَلَاةً تُدْخِلُنَا بِهَا جَنَّتِ النَّعِيمِ بِرَبِّ لَا

وہ دُرود کہ داخل کرے تو ہم کو اس سے بہشت میں بغیر حساب کے ،

حِسَابٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

لے اللہ دُرود بھیج اُوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُبَيِّحُ لَنَا بِهَا النَّظَرَ إِلَى

محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ مباح کرے تو واسطے ہمارے نظر کرنی طرف

وَجْهِكَ الْكَرِيمِ مَعَ الْأَحْبَابِ اللَّهُمَّ

ذات اپنی بزرگ کے ساتھ دوستوں کے ، لے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى

دُرود بھیج اُوپر سردار اور نبی ہمارے محمد ﷺ کے وہ دُرود کہ

تَنْحَلْنَا بِهَا حُبَّ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

عطیہ دے ہمیں تو اس سے محبت آل اور اصحاب اس کے سب کی

اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

اے اللہ ہم وسیلہ پکڑتے ہیں تیری طرف سردار رسولوں کا

وَشَفِيعِ الْمُدْنِيِّينَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَشَفِيعِ

اور شفیع گناہگاروں کا جو نبی رحمت کے اور شفاعت

الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ بِحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ وَبِقُدْرَةِ

کرنیوالے امت کے اے اللہ ساتھ اس عزت کے جو آپ کی تیرے نزدیک

لَدَيْكَ نَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَنَزُولَ

ہے اور آپ کی اس قدر کی جو تیرے نزدیک ہے ہم مانگتے ہیں کامیابی وقت فیصلہ کے

الشُّهَدَاءِ وَعَيْشِ السُّعْدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى

اور آترنا شہیدوں کا اور زندگی نیکوں والی اور مدد اُوپر

الْأَعْدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَنَحْنُ عِبَادُكَ

دشمنوں کے اور رفاقت نبیوں کی اور ہم بندے تیرے ہیں

الضُّعْفَاءِ لَا نَعْبُدُ سِوَاكَ وَلَا نَطْلُبُ إِذَا مَسَّنَا

کمزور۔ نہیں عبادت کرتے ہم سوا تیرے اور نہیں مانگتے ہم جب چھوئے ہم

الضَّرُّ إِلَّا بِإِيَّاكَ فَا مِنْ رَوْعَاتِنَا وَاجِبٌ دُعَاؤُنَا

کو تکلیف مگر تجھ سے پس امن سے ہماری گھبراہٹ کو اور قبول کر دعائیں

وَاقْضِ حَاجَاتِنَا فَاعْفِرْ ذُنُوبَنَا وَاسْتُرْ عِيُوبَنَا

ہماری اور پوری کر حاجتیں ہماری پس بخش دے گناہ ہمارے اور چھپالے عیب ہمارے

يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ يَا حَلِيمُ وَارْحَمْنَا إِنَّكَ

اے رحم والے اے بزرگ اے بردبار اور رحم کر ہم پر بے شک

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِلَاجَابَةٌ جَدِيرَةٌ

تو اوپر ہر شے کے قادر ہے اور ساتھ قبول کرنے کے لائق ہے

نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ

بہتر ہے دوست اور بہتر ہے مددگار اے بلند اے عظیم

يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ اللَّهُمَّ إِنَّا عِبِيدُكَ

اے جاننے والے اے حکمت والے اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں

وَجُنْدٌ مِّنْ جُنُودِكَ مُتَعَلِّقُونَ بِجَنَابِ نَبِيِّكَ

اور لشکر ہیں تیرے لشکروں سے تعلق والے ہیں تیرے نبی کی جناب میں ،

مُتَشَفِّعُونَ إِلَيْكَ بِحَبِيبِكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

شفاعت لاتے ہیں تیری طرف تیرے حبیب کی اے پالنے والے جہانوں کے

وَيَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

اور اے بڑے رحم والے رحم کرنے والوں سے اور درود بھیجے اللہ اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدًا خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ

اور نبی ہمارے محمد ﷺ پر جو خاتم ہیں نبیوں کے اور امام

الْمُرْسَلِينَ وَأَرْضَ عَن آيِهِ وَصَحْبِهِ

ہیں رسولوں کے اور راضی ہو ان کی آل اور اصحاب سب

أَجْمَعِينَ ۚ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ

پر پاک ہے رب تیرا صاحب عزت کا اس چیز

عَبَّأَيِّصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

سے جو وصف کرتے ہیں اور سلام ہو اُوپر رسولوں کے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور تمام تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار ہے جہانوں کا

خدا کا ذکر کرے اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے

ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے

درِ رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا

کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کریں

درود شریف کے متعلق

چالیس احادیث

(۱) جو چاہے کہ اس کے اعمال بڑی ترازو میں تلیں اس کو چاہئے کہ مجھ ﷺ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔

(۲) مجھ ﷺ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے۔

(۳) مجھ ﷺ پر کثرت سے درود بھیجا کرو اس لئے کہ قبر میں ابتداء تم سے میرے ﷺ بارے میں سوال کیا جائے گا۔

(۴) قیامت کے دن اس کے خطرات سے زیادہ سے زیادہ محفوظ دنیا میں درود پڑھنے والا ہوگا۔

(۵) کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن مجھ ﷺ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔

(۶) جس کے سامنے میرا ﷺ تذکرہ آئے اس کو چاہئے کہ

مجھ ﷺ پر درود بھیجے۔

(۷) جو مجھ ﷺ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا۔ اللہ اس پر دس دفعہ درود بھیجے گا اس کی دس خطائیں معاف کرے گا اور دس درجے بلند کرے گا۔

(۸) جو مجھ ﷺ پر کثرت سے درود بھیجے گا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔

(۹) مجھ ﷺ پر درود شریف پڑھنا قیامت میں نور ہے۔

(۱۰) جو شخص مجھ ﷺ پر درود کسی کتاب میں بھیجے (لکھے) ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے۔ جب تک میرا ﷺ نام اس کتاب میں رہے گا۔

(۱۱) جو شخص صبح کو دس بار اور شام کو دس بار درود پڑھے۔ قیامت کے دن اس کیلئے میری ﷺ شفاعت لازم ہوگی۔

(۱۲) جو کوئی مجھ ﷺ پر سو مرتبہ درود بھیجے اس کی سو (۱۰۰) حاجتیں پوری ہوں گی۔

(۱۳) تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ ﷺ پر درود پڑھتے رہو، بے شک

تمہارا درود مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا رہتا ہے۔

(۱۲) مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنا ایسا ہے جیسے راہ خدا میں ایک غلام آزاد کرنا۔

(۱۵) مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ تمہارے لئے موجب پاکی ہے۔

(۱۶) جب کسی کو مشکل پیش آئے اس کو چاہئے کہ مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرے۔

(۱۷) مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو اس لئے کہ تمہارے لئے فلاح کا ذریعہ ہے۔

(۱۸) جب کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو انشاء اللہ یاد آجائے گا۔

(۱۹) جمعہ کے دن مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ جمعہ کو تمہارا درود مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتا ہے۔

(۲۰) جو کوئی مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ وہ مجھ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے اور میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلہ میں اس پر درود بھیجتا ہوں۔

(۲۱) جس نے مجھ ﷺ پر دن بھر میں ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ درود

پڑھا۔ وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔

(ترغیب و ترہیب)

(۲۲) مجھ ﷺ پر درود بھیجا کرو اس لئے کہ یہ درود تمہارے لئے

زکوٰۃ کے حکم میں ہے۔ یعنی صدقہ ہے۔

(۲۳) مجھ ﷺ پر درود بھیجنا تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے۔

(۲۴) مجھ ﷺ پر تمہارا درود بھیجنا تمہارے لئے دعاؤں کو محفوظ

کرنے والا ہے۔

(۲۵) مجھ ﷺ پر درود بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارے لئے گناہوں کا

کفارہ ہے۔

(۲۶) اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرو۔ پھر مجھ ﷺ پر درود بھیجو اور

پھر دعا مانگو۔ نیز دعا کے اول و آخر میں درود پڑھنا مستحب ہے۔

(۲۷) جب تک کوئی مجھ ﷺ پر درود بھیجتا رہے گا فرشتے اس آدمی

پر درود پڑھتے رہیں گے۔

(۲۸) جو شخص مجھ ﷺ پر سو مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس

شخص کو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا۔

(۲۹) جو کوئی ایک درود پڑھتا ہے اللہ اس کی دس خطائیں معاف کرتا ہے دس درجے بلند کرتا ہے اور دس نیکیاں لکھتا ہے۔

(۳۰) جو مجھ ﷺ پر جمعہ کی رات سو مرتبہ درود پڑھے گا تو وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔

(۳۱) جو کوئی مجھ ﷺ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں۔

(۳۲) جو مجھ ﷺ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس دن اور اس رات کے اندر اس کے گناہ معاف کر دے گا۔

(۳۳) جو درود پڑھتا ہے اس کے لئے ایک قیراط کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔

(۳۴) تم مجھ ﷺ پر اپنے اسماء اور علامتوں کے ساتھ پیش کئے جاؤ

گے لہذا مجھ ﷺ پر خوب اچھی طرح درود پڑھا کرو۔

(۳۵) جس کے لئے یہ خوشی کا باعث ہو کہ روز قیامت اللہ تبارک

و تعالیٰ سے خوشی کے ساتھ ملاقات کرے تو وہ مجھ ﷺ پر بکثرت

درود پڑھے۔

(۳۶) فرائض کو پوری طرح ادا کرو، یہ بیس مرتبہ جہاد سے افضل ہے اور مجھ ﷺ پر درود پڑھنا ان تمام امور کے برابر ہے۔

(۳۷) جمعہ کے دن جس نے درود پڑھا تو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ عظیم الشان نور ہوگا، جو تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو انہیں کفایت دی جائے۔

(۳۸) جس شخص نے مجھ ﷺ پر جمعہ کے دن سو مرتبہ درود پڑھا تو اس کے ۲ سال کے برابر گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

(۳۹) جس شخص کے سامنے میرا ﷺ ذکر آئے اور پھر اس نے مجھ ﷺ پر درود نہ پڑھا تو وہ جنت کے راستے سے بے راہ کر دیا گیا۔

(۴۰) جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کے ذکر اور رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھنے سے پہلے منتشر ہو جائیں یہ انجام بد اور حسرت کا مقام ہوگا۔

مومنو! پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود
ہے خدا کا یہ وظیفہ الصلوٰۃ والسلام

تخلیق:۔ عبدالعلی عابد

فہرست

5	انتساب
6	دیباچہ
9	وجہ کتاب
11	انتباہ
14	درود شریف اور فرمان باری تعالیٰ
16	درود شریف اللہ کا ذکر ہے
17	درود شریف اور چھوٹا سا ثواب
18	عظمت درود شریف
20	کیا بدکار کا کفن و دفن نبی کرے وجہ درود شریف
22	درود شریف کی برکت
24	درود شریف راہ نجات
25	درود شریف اور امتی کی پہچان
27	درود شریف اور سب سے بڑا بخیل
28	نبی پاک ﷺ کی زیارت سے محروم
29	درود شریف اور بخیل کا انجام
30	درود شریف اور ذکر نبی ﷺ
32	استغفار پڑھو یا درود شریف
34	درود شریف اور عبادت قبول یا نہ قبول
36	درود شریف اور عرش کا سایہ
37	درود شریف کی اصلی حقیقت

- 39 برکت درود شریف
- 40 درود شریف اور حق مہر
- 41 درود شریف اور گناہوں سے نجات
- 42 درود شریف اور قبر سے خوشبو
- 44 درود شریف اور دلائل الخیرات لکھنے کی وجہ
- 46 درود شریف اور میزان کا پلڑا
- 47 بے الہی کی رحمت سے محروم ہونا
- 49 درود شریف اور قبر میں مدد
- 50 پاکیزگی کا نسخہ درود شریف
- 53 درود شریف اور امیر ہونے کا نسخہ
- 55 درود شریف اور 1965ء کی جنگ آزادی
- 56 درود شریف اور آج کے دور کا انوکھا واقعہ
- 58 درود شریف اور علامہ اقبال حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ
- 59 درود شریف اور سچائی کا بول بالا
- 61 درود شریف اور عیدی
- 63 درود شریف اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار حج
- 64 فرمایا
- 65 درود شریف اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- 66 درود شریف اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ
- 67 درود شریف اور دریائے رحمت
- 69 درود شریف اور جمعہ کے دن کی فضیلت
- 71 درود شریف اور فرشتوں کے ساتھ نماز

- 72 درود شریف اور تکلیفوں سے نجات
- 74 کثرت درود شریف کا فارمولہ
- 76 درود شریف اور دعا میں وقت
- 77 درود شریف اور ابوسلیمان کا فلسفہ
- 78 درود شریف اور قبولیت کی کنجی
- 79 درود شریف اور قیامت کے دن انعام
- 80 پانچ فرشتے
- 81 درود شریف اور صدقہ و خیرات
- 82 درود شریف اور دنیا میں جنت کی بشارت
- 84 درود شریف اور ستر ہزار نیکیاں ستر ہزار دن
- 86 درود شریف اور خدا کا سلام
- 87 درود شریف اور حضرت جبریل کیسے اور کیوں پیدا ہوئے
- 89 درود شریف اور مشرق و مغرب کا فرشتہ
- 90 درود شریف اور تحفے ہی تحفے
- 91 تین اور تحفے
- 92 درود شریف اور مجبور کو کھانا ملا
- 94 درود شریف اور شہد کی مکھی
- 97 درود شریف اور جان کنی میں آسانی
- 99 درود شریف اور گناہ گار کی توبہ
- 102 درود شریف اور روضہ مقدس ﷺ
- 103 درود شریف اور جنت کا راستہ کھونا
- 104 درود شریف اور چھوٹا کام، بڑا انعام

- 105 درود شریف اور قطعی جنتی شخص
- 106 درود شریف اور برکت فضیلت
- 109 درود شریف اور قرض دار
- 111 درود شریف اور عاشق رسول ﷺ
- 114 درود شریف اور تریاق مجرب
- 115 درود شریف اور مشکل میں مدد
- 118 درود شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
- 120 درود شریف کے ایک لفظ کے بدلے جنت
- 121 درود شریف اور حوض کوثر پر بازیابی
- 122 دور اور نزدیک ہر مقام سے نبی پاک ﷺ درود شریف خود سنتے ہیں
- 124 جن اوقات میں درود شریف نہیں پڑھنا چاہئے
- 126 کونسا درود شریف پڑھنا چاہئے
- 128 درود شریف کس طریقہ سے پڑھنا چاہئے
- 134 درود شریف اور نذرانہ عقیدت

سلسلہ وار درود شریف

- | | | | |
|-----|----------------------|-----|---------------------------|
| 155 | درود حضرت غوث الاعظم | 135 | توجہ!!! |
| 158 | درود لکھی | 137 | درود ابراہیمی |
| 168 | درود خمسہ | 140 | درود حبیب |
| 169 | درود کشف | 141 | درود حضرت خضر علیہ السلام |
| 171 | درود حل المشکلات | 143 | درود تاج |
| 173 | درود مقدس | 149 | درود تحینا |
| | | 154 | درود غوثیہ |

236	درود مستجاب الدعوات	194	درود قبرستان
237	درود رضویہ کللی آنکھ دیدار مصطفیٰ کریمؐ	198	درود مدنی
239	درود قطب	199	درود شفاعت
241	درود کمالیہ	200	درود الفلاح
242	درود فاضل	203	درود مصطفیٰ
252	درود عالی	204	درود قلب
253	درود ثواب	207	درود اول و آخر
254	درود حصول عزت	208	درود اول
256	درود عالی (سب سے چھوٹا درود شریف)	211	درود محمدی ﷺ
257	درود نصرت	214	درود چھ لکھی کللی آنکھ دیدار مصطفیٰ کریمؐ
258	درود وسیلہ	215	درود قرآنی
260	درود مائیں	216	درود حصول رحمت
264	درود ہزارہ	218	درود لاقانی
266	درود دیدار	219	درود نوری
267	درود نادیدہ	220	درود حضرت موسیٰ علیہ السلام
269	درود مجتبیٰ	221	درود حضرت علیؑ
270	درود کوثر	222	درود حضرت فاطمہؑ
272	درود مشاہدہ	223	درود انعام
273	درود دعا و دوا	223	درود حفاظت
275	درود حضوری	225	درود نعمت عظمیٰ
276	درود بشارت	226	درود محبت الہی
278	درود افضل	228	درود بلندی درجات
279	درود نجات و با	229	درود جمعہ

321	درود مکرم	280	درود اعتصام
324	درود سید المرسلین	282	درود طیب
325	درود دفع شر دشمنان	284	درود علیؑ اور درود خاص
327	درود مکین		سات خاص الخاص جنتی
328	درود مقرب	285	درود شریف
329	درود برکات کثیرہ	292	درود العابدین
330	درود عاشقین	294	درود عارفین
335	درود محبت رسول ﷺ (کھلی آنکھ دیدار مصطفیٰ ﷺ کرنوالی ہستی)	300	درود ثمرات
		301	درود رفاہی
338	چار عالی شان درود شریف	306	درود تعلق
339	درود اکبر	307	درود شفاء قلوب
381	درود مستغاث	309	درود اعزاز
423	درود کبریت احمر شریف	312	درود وائی
452	درود اکسیر اعظم	313	درود صادقین
	درود شریف کے متعلق	316	درود زہدین
484	چالیس احادیث	318	درود الطالبین
		319	درود مکاشفہ

انسان نیک کب ہوتا ہے؟

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آدمی نیک کب ہوتا ہے؟
 ”آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اس کی نیت میں نصیحت، دل میں خوف،
 زبان پر سچائی اور اس کے اعضاء سے اعمال صالحہ کا صدور ہوتا ہے۔“
 (مکاشفۃ القلوب)

شانِ مدینہ پاک

(1) حدیث پاک ہے مسجد نبوی میں کی گئی عبادت کا اجر اور ثواب پچاس ہزار ملے گا۔ نبی پاک ﷺ نے فرمایا ”اے اللہ! مکہ کی نسبت مدینہ پاک میں عبادت کا ثواب دوگنا عطا فرما“ مطلب یہ کہ مکہ شریف میں ایک لاکھ اور مدینہ پاک میں دو لاکھ


(2) فرض حج! جذب القلوب صفحہ نمبر ۲۰ حدیث شریف میں آیا ہے ”جو شخص رسول اللہ ﷺ کی مسجد کا قصد کرے اس لئے کہ اگر اس میں دو رکعت نماز ادا کرے تو مکمل حج کا ثواب پاتا ہے۔“ اگر پچاس رکعتیں نفل ادا کرے تو پچیس کامل فرض حج کا ثواب ملے گا۔ مکہ شریف میں حج سال میں ایک بار آتا ہے اور مسجد نبوی میں ہر روز جتنے چاہوں حج کرو۔ (3) عمرہ! حدیث عالیشان ہے مسجد قبلہ میں دو رکعت نفل عمرے کی نیت سے ادا کرے تو اسے ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ (4) آگ دوزخ حرام! حدیث مقدس ہے جو کوئی مسجد نبوی میں چالیس نمازیں ادا کرے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ (5) بے مثال عبادت! جو عبادت مسجد نبوی میں رسول اللہ ﷺ کی قربت میں کی جائے وہ عبادت بے مثال لا جواب اور لامتناہی ہے جسکے اجر اور ثواب کا کوئی بھی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ الغرض قل کائنات میں مدینہ پاک وہ مقدس خطہ ہے جس میں ہر طرح کی عبادت کا ثواب زیادہ ہی ملتا ہے۔ مدینہ پاک میں حج کا ثواب بھی موجود ہے اور عمرے کا ثواب بھی موجود ہے۔ آگ دوزخ سے نجات بھی ہے سب سے بڑھ کر حبیب اللہ ﷺ کا قرب نصیب ہوتا ہے جو سب سے بڑھ کر افضل اور مقدس ہے۔ یہ ہے شانِ مدینہ پاک

-- اللہ حافظ --

اولیاء اللہ!

خدا کے ملک کے منتظم اور والی ہیں

(فرمان داتا گنج بخش سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ)



گنج بخش آپ کی مشہور ہم چہ کر کرم
کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم